


قرآنِ کریم کے

فقہی و سائنسی مضامین

خورشید حسن قاسمی







# قرآن کریم کے

## فقہی و سائنسی مضامین

قرآن اور معجزاتِ انبیاء، نظامِ فلکی و نظامِ کائنات،  
سیرِ نبوی، سائنس و فقہ، نکاح و طلاق، اور  
وراثت وغیرہ پر مشتمل آیاتِ کریمہ کا محکمہ

خورشید حسن قاسمی

از:

ناشرانِ تاجرانِ کتب  
اردو بازار لاہور

الفیصل

۲۹۷۶۱۱

۱۵۷۲

۵۷۱۰۷

جون ۱۹۹۶ء

محمد فیصل نے

تعریف پرنٹرز لاہور سے چھپوا کر شائع کی

قیمت ۶۰ روپے

## پیش لفظ

اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوں کہ جس نے قرآن مجید کے مضامین کی ترتیب کی توفیق بخشی اور خداوند قدوس کے فضل و کرم سے کتاب "قرآن کریم کے فقہی و سائنسی مضامین" منظر عام پر آگئی۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے، ہر دور اور ہر زمانہ میں امت مسلمہ کے ایک طبقہ نے قرآن مجید کی مختلف طریقہ پر خدمت انجام دی اور تفاسیر و تھابیت کے ذریعہ کتاب اللہ کی ہر طریقہ سے خدمت کی۔

متعدد تفاسیر کے سہ وقت دستیاب ہونے کے باوجود عرصہ سے یہ کمی محسوس کی جا رہی تھی کہ اردو میں قرآن کریم کے مضامین پر مختصر کتاب ترتیب دی جائے جس سے مضامین قرآن کا ایک جائزہ سامنے آ سکے۔

چنانچہ زیر نظر ترتیب میں راقم الحروف نے، فقہی احکام، سائنس اور انسانی نفسیات، حقوق انسانی، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آیات کریمہ کو جمع کیا اور ہر ایک آیت کریمہ کا مکمل حوالہ، پارہ نمبر، رکوع نمبر، آیت نمبر پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک آیت کریمہ کا اردو ترجمہ، تفسیر بیان القرآن اور ترجمہ حضرت شیخ الحدیدؒ سے پیش کیا اور بعض مقامات پر آیت کریمہ کی مختصر تشریح و وضاحت، حاشیہ پر پیش کر دی۔ اور بعض مقامات پر ترجمہ کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں پیش کیا۔ اگرچہ اس خدمت کی انجام دہی میں، غیر معمولی احتیاط سے کام لیا لیکن پھر بھی بہبودِ نسیان

خارج از امکان نہیں۔

اس لیے جو غلطی نظر سے گزرے، راقم الحروف کو اس سے مطلع فرما کر عند اللہ  
ماجو رہوں، دعا ہے خداوند قدوس، اس خدمت کو قبول فرمائے اور نافع خلایق بنائے  
آمین ثم آمین۔

خورشید حسن قاسمی

رفیق دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

۲۹  
۱۴۱۵ھ

۹۴-۹-۷ بروز بدھ

# فہرست مضامین

قرآن کریم کے فقہی و سائنسی مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	توحید باری سے متعلق دیگر آیات	۱۱	قرآن اور توحید باری تعالیٰ
۲۰	علم غیب اور قرآن	۱۲	آسمان و زمین کے بنانے والے
	قرآن اور علم غیب	۱۳	زمین و آسمان کی پیدائش
۳۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب	۱۴	رات اور دن کو پیدا کرنے والے
	نہ ہونے سے متعلق قرآن کا فیصلہ	۱۵	انسان کو نطفہ سے پیدا کرنے والا
۳۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور	۱۶	ہر ایک چیز کا خالق
	ختم نبوت سے متعلق قرآنی فیصلہ	۱۷	ہر ایک جاندار کو پانی سے پیدا کرنے والا
۳۶	آپ کے عظیم اخلاق	۱۸	توحید سے متعلق کفار کا ایک سوال
	آپ کی عادت مبارکہ	۱۹	قابل تعریف پروردگار
۳۸	آپ کی عام نبوت	۲۰	جنات اور انسان کی پیدائش
۴۰	غور و فکر کی ایک دعوت	۲۱	خداوند قدوس ہی سب چیزوں کا مالک
	انبیاء علیہم السلام کے اہل و عیال	۲۲	ہے
	اہل و عیال کے لیے تبلیغ کا حکم	۲۳	قرآن اور نظام رزق
۴۵	رسولوں کی ایک سی رحمت	۲۴	فلسفہ غریبی و مال داری
۴۶	دنیاوی مال و دولت کو لالچ کی نگاہ	۲۵	نا اُمیدی کے بعد ارش برسانے والا
	سے دیکھنے کی حمانعت	۲۶	اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پروردگار
۴۸	قرآن کریم نازل کرنے کا مشہد	۲۷	نہیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۹	معجزہ کے طور پر حضرت یعقوبؑ کا	۴۵	حضرات انبیاءؑ کی بشری ضروریات
	حضرت یوسفؑ کی خوشبو سونگھنا	۴۶	درو شریف پڑھنے کا حکم
۷۰	بطور معجزہ ایک رات میں طویل ترین سفر	۴۸	حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
"	بطور معجزہ اصحاب کہف کا غار میں		بارے ہیں ارشاد
	پناہ لینا	"	آپ کے لیے قرآنی بشارت
۷۱	بطور معجزہ حضرت خضرؑ کے ہاتھ سے	۴۹	سب کے رسولؐ
	مردہ پھلی کا زندہ ہو کر چلنا	۵۱	قرآن اور تقدیر انسانی
۷۲	معجزہ کے طور پر حضرت مریمؑ پر پھیلوں	۵۲	چاند کی منزل
	کی بارش	"	انسانوں کے لیے غذا ہیں
۷۳	حضرت عیسیٰؑ کا ایک معجزہ	۵۴	نزول قرآن سے متعلق آیات کریمہ
"	جادو گروں کی نظر بندی	۵۵	قرآن عربی
۷۴	حضرت ابراہیمؑ کے لیے آگ کا	۵۶	برحق کتاب
	چمن بن جانا	"	گذشتہ کتب کی تصدیق کرنے والی کتاب
۷۴	حضرت داؤدؑ کے لیے پہاڑوں کا	۵۸	آپ پر نازل کیا ہوا ذکر
	تسبیح کرنا	۶۰	قرآن اور معجزات رسولؐ
۷۵	حضرت موسیٰؑ کا ایک معجزہ	"	طور پہاڑ کو معلق کر دینا۔
۷۶	مزید معجزات سلیمانؑ	۶۳	بطور معجزہ، بچہ کا گورد کی عمر میں کلام کرنا
۷۷	حضرت موسیٰؑ کے لیے معجزہ	"	غزوہ بدر میں ایک معجزہ
۷۸	قرآن ایک معجزہ	۶۸	حضرت یوسفؑ کا والد کی خدمت
"	حضرت داؤدؑ کا معجزہ		میں کرنے بھیجا۔



صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۴	قربانی کے جانور کے بے عیب ہونے سے متعلق	۸۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ
۹۵	احرام باندھنے کے بعد حج سے رُک جانے کا حکم۔	۸۱	بطور معجزہ قوم لوط کو اندھا کر دینا
۹۶	مریض کے لیے بجائے روزے کے فدیہ کا حکم	۸۲	واقعہ ابابیل ایک معجزہ
۹۷	حج کے احکام و آداب	۸۲	قرآن اور فقہی احکام
۹۸	حج میں عرفات سے واپسی کے وقت کا حکم۔	۸۳	احکام طہارت
۹۹	تمتع کا حکم	۸۴	وضو، تیمم، غسل کے احکام
۱۰۰	نکاح کے حرام رشتوں کی تفصیل	۸۵	حبس کا حکم
۱۰۱	نکاح کے لیے ولی	۸۶	احکام نماز قرآنی آیات کی روشنی میں
۱۰۲	شوہر و بیوی کی اصلاح کے لیے حکم مقرر کرنا۔	۸۷	نماز پنجگانہ سے متعلق آیت کریمہ
۱۰۳	قرآن اور نکاح کی تاکید۔	۸۸	نماز خوف اور قرآن
۱۰۴	بیوی کے ساتھ لعان کا حکم	۸۹	ربا کار نمازی
۱۰۵	رضاعت دودھ کے رشتوں کے احکام	۹۰	قرآن اور زکوٰۃ کے احکام
۱۰۶	دودھ چھڑانے کی مدت	۹۱	صدقات کا مصرت
۱۰۷	قرآن اور بیوی کے حقوق	۹۲	قرآن اور احکام حج
۱۰۸	خواتین کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۹۳	سعی صفا و مروہ
			مسائل روزہ، انگنائے شب قدر
			روزہ رکھنے کا حکم
			بحالت انگنائے جماع کی ممانعت
			حالت عمرہ میں سر کے بال کٹانا
			بحالت احرام شکار کھیلنا



صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۷	وراثت اور وصیت کے احکام		علیہ وسلم سے ایک سوال۔
۱۱۸	تفصیلی آیات وصیت	۱۰۳	عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ممانعت
"	مرد اور عورت کا حصہ	۱۰۴	ظالم شوہر سے صلح
۱۱۹	ماں باپ کا ترکہ میں حصہ	"	مردوں کے درجے
۱۲۰	عدت و فوات کا منسوخ حکم	۱۰۵	نافرمان عورت کی سزا
۱۲۰	بیوی کے ماں سے شوہر کا حصہ	۱۰۶	قرآن اور احکام طلاق
۱۲۱	کلامہ کا حکم	"	تین طلاق کے بعد علامہ کا حکم
"	بیوی کا حصہ	۱۰۸	مطلقہ کے لیے متعہ
	سود سے متعلق آیات	۱۰۹	ایلاہ کا حکم
۱۲۳	خرید و فروخت کے احکام	"	مطلقہ کے لئے متعہ
۱۲۴	انسان کی نفسیات اور انسانی	۱۱۰	عدت شمار کرنے کا حکم
"	حقوق سے متعلق قرآن پیغام	۱۱۱	مطلقہ کے لیے رہائش کا انتظام
"	انسان کی ناعاقبت اندیشی	"	حاملہ کی عدت
"	انسانوں کے لیے راہ اعتدال کا حکم	۱۱۲	قرآن میں چور کی سزا
۱۲۷	قرآن میں زانی کی سزا۔	"	قرآن میں ڈاکو کی سزا
"	خوبصورت سانپے میں ڈھالا گیا انسان	۱۱۳	قرآن اور پردہ
۱۲۷	قرآن میں زانی کی سزا		گھر میں داخلہ کے وقت
"	لواطت کرنے اور کرانے کی سزا۔		اجازت کے احکام
۱۲۸	انسان کا بدلتا ہوا مزاج	۱۱۵	بالغ بچوں کے لیے حکم
"	مصیبت کے وقت انسان کی کیفیت		بوڑھی عورتوں کے بارے میں احکام



صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	کی ممانعت۔	۱۲۷	تمام پیدائش ایک ہی نفس سے
۱۳۶	بغیر تحقیق کے یقین کرنے کی سخت	۱۲۵	رحمت اور کرم کی انتہا
	ممانعت۔	۱۲۶	رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت
۱۳۷	انسان کی کوشش کا نتیجہ	۱۲۷	تمام مخلوق پر انسان کی فضیلت
	انسان کی پیدائش کے تین دور	۱۲۸	قرآن اور انسانی فطرت
۱۳۸	والدین کے لیے حسن سلوک کی تاکید	۱۲۹	جھگڑے میں سب سے آگے
۱۳۹	راستی میں چلنے کے آداب	۱۳۰	انسانوں کی پیدائش اور قبیلے
۱۴۰	انعامات باری اور قرآن	۱۳۱	زمین، ایک گہوارہ اور پہاڑ،
۱۴۱	انسانوں کے عرت کی رعایت	۱۳۲	زمین کی میخ ہے۔
۱۴۲	قرآن اور نظام کائنات	۱۳۳	انسان سے ایک سوال
۱۴۳	رات اور دن کی زندگی۔	۱۳۴	بادشاہوں کی نفسیات
۱۴۴	ستاروں کا مقصد	۱۳۵	انسان کی آخری سانس تک کوشش
۱۴۵	کائنات کا حقیقی مالک	۱۳۶	اور اس کا نتیجہ۔
۱۴۶	کائنات کی پیدائش میں ترتیب	۱۳۷	انسان کی پیدائش کا مادہ
۱۴۷	آسمان میں گنبد	۱۳۸	رنج و غم میں مبتلا انسان
۱۴۸	سمندر سے حاصل ہونے والے	۱۳۹	تعلیم کا سب سے پہلا ذریعہ ناشکرا
۱۴۹	بے شمار فائدے۔	۱۴۰	انسان
۱۵۰	رات اور دن، اللہ کی نشانیاں	۱۴۱	گمراہ انسان اور اس کی بے پرواہی
۱۵۱	اگر دنیا کے تمام درخت قلم اور	۱۴۲	خسارہ میں رہنے والا انسان
۱۵۲	سمندر و روشنائی بن جائیں۔	۱۴۳	دیگر مذاہب و شخصیات کو برا کہنے



صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۴۹	آسمان، مرکزِ زینت	۱۴۶	رات اور دن کی فہم
۱۵۰	پھاڑوں اور دیبا جیسی نعمتیں۔	۱۴۷	پروردگار کی تسبیح کرنے والی۔
۱۵۱	سواری کے جانور اور سائنس		ہر ایک شئی۔
	جدید و قدیم۔	"	کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں
۱۵۲	جانوروں کی زندگی قرآن کی نظر	۱۴۸	قرآن اور قدرت کے چند عجائبات
	ہیں۔	۱۴۹	پانی ہر ایک مشینری و جاندار کی
۱۵۶	ہر ایک کو روزی دینے والی		جان۔
	فات۔	"	زمین رزق و روزگار

تمت



## قرآن اور توحید باری تعالیٰ

۱۔ **سُوالِذِیْ خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ فَسَوَّیْنَهَا سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ**

ترجمہ:- وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ پ ۱۸۱ رکوع ۳ آیت ۲۹

### آسمان وزمین کے بنانے والے

۲۔ **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ**

ترجمہ:- تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سورہ انعام پ ۱ رکوع ۱ آیت ۱

۳۔ **وَسُوالِذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَیَوْمَ یَقُوْلُ مٰکُنْ فٰکُنْ**

ترجمہ:- وہ یہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو باقاعدہ پیدا کیا اور جس وقت اللہ تعالیٰ اٹنا کہہ دے تاکہ (حشر) تو ہو جا۔ پس وہ ہو جائے گا۔

سورہ انعام پارہ ۱ رکوع ۴ آیت ۱۳

### ”ہر ایک چیز کا خالق“

۴۔ **خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ذٰلِکُمَّا اللّٰهُ رَبُّکُم لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَکِیْلٌ**



ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور دوسرے چیز کو خوب جانتا ہے۔  
(ارکوع ۱۷ سورہ الانعام پ ۱ آیت ۱۳)

## زمین اور آسمان کی پیدائش

۵۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ

ترجمہ:- اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں ہے اس کو اس طور سے نہیں بتایا کہ ہم فعلی بحث کرنے والے ہیں۔  
(پ سورہ الانبیاء رکوع ۷ آیت ۱۱)

## رات اور دن کا پیدا کرنے والا

۶۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي ذَلِكِ  
يَسْبَحُونَ

ترجمہ:- اور وہ ایسا ہے، اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے ہر ایک، ایک دوسرے کے دائرہ میں تیر رہے ہیں۔  
(سورہ الانبیاء رکوع ۷ آیت ۲۳ پارہ ۱)

## انسان کو لطفہ سے پیدا کرنے والا

۷۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ مِنْ طَيِّبَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً  
فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً  
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا  
آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ



ترجمہ:- ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ یعنی غذا سے بنایا پھر ہم نے اس کو  
نطفہ سے بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا پھر  
ہم نے اس نطفہ کو خون کا ٹوٹھا بنا دیا۔ پھر ہم نے اس خون کے ٹوٹھے کو گوشت  
کی بوٹی بنایا پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہم نے  
ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اُس میں روح ڈال کر اس کو ایک  
ہی طرح کی مخلوق بنا دیا سو کسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صنائعوں سے  
بڑھ کر ہے۔ (پارہ ۱ سورہ مومنون رکوع ۱-۱۱ آیت ۱۱)

## ہر جاندار کو پانی سے پیدا کرنے والا

۸۔ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنٍ ۖ  
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ  
اللّٰهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر ایک چلنے والے جاندار کو (خشکی کا ہوا سمندری)  
پانی سے پیدا کیا ہے پھر ان میں بعض تو وہ جانور ہیں جو کہ اپنے پیٹ کے بل  
چلتے ہیں اور بعض اُن میں وہ ہیں جو کہ دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ان میں  
وہ ہیں جو کہ چار پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بنا تا ہے بیشک  
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (پارہ ۱ سورہ مومنون رکوع ۱۱-۱۵ آیت ۱۵)

## ہر ایک چیز کا خالق

۹۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا تَدِيرًا۔

ترجمہ:- اور اس نے ہر موجود چیز کو پیدا کیا پھر سب کا الگ الگ اندازہ



رکھا۔ (سورۃ الفرقان پ ۱۸ رکوع ۲ آیت ۲)

## توحید سے متعلق کفار سے ایک سوال

۱۰۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

ترجمہ:- اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے آپ کہنے۔ الحمد للہ بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (سورۃ لقمان پ ۲۱ رکوع ۱۲ آیت ۲۵)

۱۱۔ خَلَقَ السَّمٰوٰاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا وَاَلْقٰی فِی الْاَرْضِ رَوْاسِیًۢا اَنْ تَمِیْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْتَبٰنَا فِیْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ کَرِیْمٍ۔ (آیت ۱۲ سورۃ لقمان رکوع ۱۲)

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا، تم ان کو دیکھ رہے ہو اور اوز زمین میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں وہ تم کو لے کر ڈالوں ڈول نہ ہونے لگیں اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیل کر رکھے ہیں اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام اُگائے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔

## جنات اور انسان کی پیدائش

۱۲۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِہِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ۔ (سورۃ رحمن پ ۲۷ رکوع ۱۱ آیت ۱۵)

ترجمہ:- اس نے انسان کی اصل یعنی آدم کو ایسی مٹی سے جو کہ ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی پیدا کیا۔ اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔



## قابل تعریف پروردگار

۱۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ.... وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پ سورہ آل عمران رکوع ۷۲ آیت ۲۶

ترجمہ:- اے محمد آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کہیے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے آپ ملک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں اور جس کو چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہیں پست کر دیتے ہیں آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلاشبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

## روشنک پر ایک سوال

۲۔ اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا.... (آیت ۲۵ پ ۵ سورہ نساء رکوع ۴)

ترجمہ:- کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا، سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے....

۳۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.... (آیت ۱۱ سورہ مائدہ رکوع ۶ پ ۶)

ترجمہ:- اور اللہ ہی کے لیے ہے سب حکومت آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔

۴۔ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...

رپ سورہ مائدہ رکوع ۲ آیت ۱۷۱

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور چیزیں زمین میں ہیں۔

۵۔ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ...

(آیت ۱۲۶ پ سورہ نساء رکوع ۱۲)

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔

**خداوند قدوس ہی تمام چیزوں کے مالک ہیں**

۶۔ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

رپ سورہ ملک رکوع ۱ آیت ۱

ترجمہ :- وہ خدا بڑا عالی شان ہے جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۷۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا۔ رپ سورہ فتح رکوع ۹ آیت ۱۱

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے کہ جو خدا کے سامنے تمہارے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے۔

۸۔ قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا۔ پ سورہ جن رکوع ۱۱ آیت ۲۱

ترجمہ :- آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لئے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔



# قرآن اور نظام رزق

۱۔ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

سورۃ بقرہ پ ۲ رکوع ۹۔ آیت ۲۱۲

ترجمہ:- اور خداوند قدوس جس کو چاہے بغیر حساب رزق عطا فرماتے ہیں  
۲۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا  
وَمُسْتَوْدَعُهَا ط كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ۔ ۱۳ سورۃ ہود رکوع ۱۔ آیت ۱۲  
ترجمہ:- اور کوئی رزق کھانے والا جاندار روسے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں  
کہ اس کی روزی اللہ کے دفتر ہو اور وہ ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ اور  
چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔

## رزق کا کشادہ اور تنگ کرنے والا

۳۔ اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا  
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ

پ ۱۳ سورۃ رعد رکوع ۱۔ آیت ۲۶

ترجمہ:- اللہ جس کو چاہے رزق زیادہ دیتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے اور  
یہ کفار دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں اور یہ دنیاوی زندگی آخرت کے  
مقابلہ میں سوائے ایک متاعِ قلیل کے اور کچھ بھی نہیں۔

۴۔ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الْاَزْقِيْنَ۔ سورۃ حج پ ۱۲ رکوع ۱۲۔ آیت ۸۵

ترجمہ:- اور وہ سب دینے والوں سے بہتر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ  
سب دینے والوں سے اچھا دینے والا ہے۔

۵۔ لَيَرْزُقْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ پ ۱ سورۃ الحج رکوع ۱ آیت ۵۸

ترجمہ: خداوند قدوس ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا۔

۶۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللَّهُ يَرْزُقُهَا إِيَّاهُمْ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پ ۲ سورۃ عنکبوت رکوع ۱ آیت ۷

ترجمہ:- اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو کہ اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔

۷۔ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔

(پ ۱ سورۃ روم رکوع ۱ آیت ۳)

ترجمہ:- اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو زندہ کرے گا۔

## فلسفہ غریبی و مال داری

۸۔ وَلَوْ سَيطَرَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔

(پ ۲۵ سورۃ شوریٰ رکوع ۳ آیت ۲۶)

ترجمہ:- اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے لگتے لیکن وہ جتنا رزق چاہتا ہے انداز مناسب سے ہر ایک کے لیے اتنا کرتا ہے وہ اپنے بندوں کے مصالح کو جاننے والا اور ان کا حال دیکھنے والا ہے۔



## ناامیدی کے بعد بارش برسانے والا

۹۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ

وَهُوَ الْوَاقِعُ الْحَمِيدُ۔ پ ۲۵ رکوع ۳ سورہ شوریٰ آیت ۲۸

اور وہ ایسا ہے کہ لوگوں کے ناامید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہ سب کا کارساز، قابلِ حمد ہے۔

۱۰۔ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

رَادِ الْآهِ أَهْوَ فَا تَنُوكُونَ۔ پ ۱۱ سورہ فاطر رکوع ۳ آیت ۳

ترجمہ :- اے لوگو! تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو اور شکر کرو اور غور کرو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق پہنچاتا ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم شرک کر کے کہاں اٹے جا رہے ہو؟

۱۱۔ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا۔ سورہ المؤمن پ ۱۲ رکوع ۶ آیت ۳

ترجمہ :- اور وہ ہی ہے جو کہ تمہارے لیے آسمان سے رزق پہنچاتا ہے۔

## آسمان سے رزق نازل کرنے والا

۱۲۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔

آیت ۲۵ پ ۲۶ سورہ الذاریات رکوع ۷

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا، قوت والا نہایت قوت والا ہے۔

۱۳۔ دَنِي السَّمَاءُ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔

پ ۲۶ رکوع ۱ سورۃ الذاریات آیت ۲۲

ترجمہ :- اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ان سب کامیاب وقت آسمان میں ہے۔

۱۴۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پ ۲۸ سورۃ الطلاق رکوع ۱۶ آیت ۳

ترجمہ :- اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچا دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا۔

۱۵۔ آمَنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ سورۃ ملک پ ۲۹ آیت ۲ رکوع ۱

ترجمہ :- وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت عن الحق پر جمے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی پروردگار نہیں ہے اس  
مضمون کی آیات کریمہ

۱۶۔ وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ یقینہ

ترجمہ :- اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہی رحمن اور رحیم ہے۔



۱۸۔ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ۔ سورۃ آل عمران پ ۱۔ رکوع

۱۹۔ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِثْلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔

سورۃ نساء پ ۶ رکوع ۳۔ آیت ۱۷۱

ترجمہ:- معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے وہ حساب اولاد ہونے سے پاک ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں موجودات ہیں سب اسی کی ملک ہیں اور اللہ تعالیٰ کار ساز ہونے کے لیے کافی ہیں۔

۲۰۔ قَالِ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔

پ ۱ سورۃ اعراف رکوع ۵۱۔ آیت ۲۵

ترجمہ:- (حضرت نوحؑ نے قوم سے فرمایا) اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں۔

۲۱۔ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ۔ سورۃ ابراہیم

ترجمہ:- بے شک وہ تمہارا پروردگار ایک ہے

۲۲۔ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ۔ پ ۱۳ سورۃ نحل رکوع ۷۔ آیت ۲۲

ترجمہ:- اور تمہارا معبود بحق ایک ہی معبود ہے۔

۲۳۔ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ پ ۱ رکوع

ترجمہ:- اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو کہ

ان کو نہ آسمان میں رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں سے

در نہ قدرت رکھتی ہیں۔

۲۴۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ

وگتہ نہ تکبیراً۔ پ ۱۷ رکوع ۱۲ سورہ نبی اسرائیل آیت ۱۱

ترجمہ :- اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خوبیاں، بڑائیاں بیان کیجئے۔

۲۵۔ اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْاِلٰهِ غَيْرُهُ۔ آیت ۲۳ پ ۱۸ سورہ مومن رکوع ۱

ترجمہ :- (ا) ان پیغمبروں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔

۲۶۔ قُلْ مَنْ بِيَدِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ جَبَّارٌ عَلٰٓى كُلِّ شَيْءٍ

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پ ۱۷ سورہ مومن رکوع ۱۱ آیت ۱۱

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں۔ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہو۔

۲۷۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ رَعٰهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ فِتْنًا

ذَرَّةً فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ

وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظٰلِمٍ۔ پ ۲۲ سورہ سبأ رکوع ۱۱ آیت ۲۲

ترجمہ :- آپ فرمائیے کہ جن کو تم خدا کے سوا سمجھ رہے ہو ان کو پکارو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں کے پیدا کرنے میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا کسی کام میں مددگار ہے۔

۲۸۔ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُوْنَ۔ پ ۱۷ سورہ زمر رکوع ۱

ترجمہ :- آپ کہہ دیں۔ اگرچہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں۔



۲۹۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ

شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آیت ۲۳ پ سورۃ الزن رکوع ۱۲

ترجمہ :- اور خدا کے سوا جن مہبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار

نہ رکھیں گے، ہاں جن لوگوں نے حق بات یعنی کلمہ ایمان کا اقرار کیا تھا۔

۳۰۔ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔

(پ سورۃ الفتح رکوع ۹ آیت ۱۲)

ترجمہ :- اور تمام آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے وہ جس کو

چاہے بخش دے جس کو چاہے سزا دے اور اللہ تعالیٰ بڑا

غفور و رحیم ہے۔

# نفع و نقصان کے صرف خداوند قدوس کے اختیار میں

## ہونے کے متعلق آیات

۱۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُدْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَكُنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔

سورہ مائدہ پ ۱ رکوع ۱ آیت ۱۷

ترجمہ :- آپ اس طرح معلوم کیجئے کہ اگر ایسا ہے تو یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ کو، اور جتنے زمین میں ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہیں تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے ان کو ذرا بھی بچا سکے۔

۲۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔

پ ۱ سورہ الاعراف رکوع ۱۳ آیت ۱۸

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، اور نہ نقصان کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا خدا تعالیٰ نے چاہا۔

۳۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ پ ۱ سورہ یونس رکوع ۱۵ آیت ۱۷

ترجمہ :- اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت پہنچائے تو سوائے اس کے کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔

۴۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط قُلِ اللَّهُ ط قُلْ أَفَأَنْتُمْ تُشْرِكُونَ مَن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يُنْفِثُوا غَمًّا وَلَا ضَرًّا۔

پ ۱۳ سورہ زمر رکوع ۱۷ آیت ۱۸



ترجمہ:- آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہے پھر آپ یہ کہئے کہ کیا پھر بھی تم نے خدا کے سوا دوسرے پروردگار قرار دیئے ہیں جو خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔

۵۔ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ ۱؎ سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۵ آیت ۵۶۔

ترجمہ:- آپ فرما دیجئے، جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو سہی، یقیناً وہ نہ تم سے تکلیف کے دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور نہ اس کو بدل ڈالنے کا۔

۶۔ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ آلِهَةٍ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔

آیت ۱؎ سورۃ الفرقان رکوع ۱۵۔

ترجمہ:- اور باوجود حق تعالیٰ کے یکتا ہونے کے، اُن مشرکین نے توحید کو چھوڑ کر ایسے معبود قرار دیئے ہیں جو کہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ وہ مخلوق ہیں اور خود اپنے کسی نقصان کے رفع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کے حاصل کرنے کا۔

۷۔ رَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا يَأْتِي فَا رُهْبُونَ۔ آیت ۱۵ سورۃ نحل رکوع ۱۲۔

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دو، یا دو سے زیادہ معبود مت بناؤ بس ایک معبود وہ ہی ہے تو تم لوگ خاص مجھ ہی سے ڈرا کرو۔

۸۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ رکوع ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۲۲

ترجمہ:۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو (معبود نہ بناؤ)

۹۔ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ۔ پ ۵ سورۃ کہف

ترجمہ:۔ بے شک تمہارا پروردگار ایک ہی معبود ہے۔

۱۰۔ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ۔ انبیاء

ترجمہ:۔ میرے پاس بس یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی

معبود ہے۔

۱۱۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ۔

ترجمہ:۔ اور وہ ذات ایسی ہے کہ جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی۔

## مشرک کی گمراہی

۱۲۔ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ، ذَلِكَ هُوَ

الضَّلَالُ الْبُعِيدُ۔ سورۃ حج پ ۱ رکوع ۸ آیت ۱۷

ترجمہ:۔ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو نہ اس کو

نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتا ہے یہ انتہائی درجہ کی

گمراہی ہے۔

۱۳۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَالَ ذَٰهَبَ

كُلِّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ۔ پ ۱ سورۃ المؤمنون رکوع ۹

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں قرار دیا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی

اور خدا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو تقسیم کر کے جدا کر لیتا۔



۱۲۔ عَرِّالَهُ مَعَ اللّٰهِ۔ سورۃ نمل پ ۱۱ آیت ۶

ترجمہ :- کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے ؟

۱۵۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔

(سورۃ ص پ ۲۴ رکوع ۱۳ آیت ۶۵)

ترجمہ: اور سوائے اللہ واحد غالب کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

۱۶۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔

سورۃ الزخرف پ ۲۵ رکوع ۱۲ آیت ۸۲

ترجمہ: اور وہ ہی ذات ہے جو آسمان میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں

بھی قابل عبادت ہے اور وہ ہی بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔

۱۷۔ اَمْلِكُمْ اِلَٰهَ غَيْرِ اللّٰهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

پ ۱ سورۃ الطور رکوع ۳۱ آیت ۳۳

ترجمہ: کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شرک

سے پاک ہے۔

## علم غیب اور قرآن

۱۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔

پ سورۃ البقرۃ رکوع ۳ آیت ۳

ترجمہ:۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے

۲۔ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔

پ سورۃ المائدۃ رکوع ۱۱ آیت ۱۱

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

سورۃ المائدۃ پ رکوع ۱۱ آیت ۱۱

ترجمہ:۔ آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے

علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔

۳۔ وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔

سورۃ الانعام پ رکوع ۱۲ آیت ۵۹

ترجمہ:۔ اور اللہ ہی کے پاس ہی خزانے ہیں تمام مخفی اشیاء کے، ان کو کوئی

نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

۴۔ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ۔ سورۃ یونس پ آیت ۲

ترجمہ:۔ بے شک غیب کا علم خدا ہی کو ہے۔

۵۔ وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ سورۃ ہود پ رکوع ۱

ترجمہ:۔ اور آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم خدا ہی کو

ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے۔ تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم



آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے۔

۶۔ لَہُ غَیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ پ ۱ سورۃ کہف آیت ۲۶

ترجمہ:۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم ہے۔

۷۔ اِنَّ اللّٰہَ عَالِمُ الْغَیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنَّہٗ عَلِیْمُ بَیِّنٰتِ الصُّدُوْرِ۔ پ ۱ سورۃ فاطر رکوع ۷

ترجمہ:۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہ ہی جانتے والا ہے دل کی باتوں کا۔

۸۔ عَالِمِ الْغَیْبِ لَا یَعْزُبُ عَنْہُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرٍ مِّنْ ذٰلِکَ وَلَا اَکْبَرَ الْاِیُّ فِی کِتَابٍ مُّبِیْنٍ۔

سورۃ سبأ پ ۲۲ رکوع ۷

ترجمہ:۔ (قسم اپنے پروردگار) عالم الغیب کی قیامت ضرور آئے گی اُس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی غائب نہیں۔ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اور نہ کوئی چیز اسی مقدار مذکورہ سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔

۹۔ اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ غَیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰہُ بِصِیْرٍ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔ پ ۱ سورۃ الحجرات رکوع ۱۴

ترجمہ:۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور تمہارے سب اعمال کو بھی جانتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہ ہونے

کے سلسلہ میں قرآنی فیصلہ

۱۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا

أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ سورۃ الانعام پ ۱ رکوع ۱۱

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

۲۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا

پ ۹ سورۃ الاعراف رکوع ۱۲

ترجمہ :- یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔

۳۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ الآیۃ۔

پ ۹ سورۃ اعراف رکوع ۱۳

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا خدا تعالیٰ نے چاہا اور اگر میں غیب کی بات جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا۔

۴۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا۔ پ ۲۹ سورۃ الجن رکوع ۱۱

ترجمہ :- آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ



کیا جاتا ہے آیا وہ نزدیک آنے والی ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لیے کوئی مدت دراز مقرر کر رکھی ہے۔ اور غیب کا جاننے والا وہ ہی ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا،

## ”آپ کی بشریت“

۵۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ  
پس سورہ کہف آخری رکوع،

ترجمہ: اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (برحق) ایک ہی معبود ہے سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی اہم ضرورت رکھے تو نیک کام کرتا رہے۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت

سے متعلق آیات کریمہ

۱۔ اِنَّا ارْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ لَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ

الْجَحِيْمِ۔ سورہ بقرہ پارہ ۱ رکوع ۱۳ آیت ۱۹۔

ترجمہ :- ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہیے اور ڈراتے رہیے اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی۔

۲۔ وَارْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا۔

پ ۵ آیت ۴ سورہ النساء

ترجمہ :- اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

۳۔ كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِّتَتْلٰ

عَلَيْهِمُ الَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ۔

پ ۳ سورہ رعد آیت ۳ رکوع ۹۔

ترجمہ :- اور اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اسی امت سے پہلے اور بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ وہ آپ کو وہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجی ہے۔

۴۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔

پ ۵ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۱۱ آیت ۱۵۔

ترجمہ :- اور ہم نے آپ کو صرف خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔



۵۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔

پ کا سورۃ الانبیاء۔ رکوع ۲ آیت ۱۲۱  
ترجمہ: اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے لیے نہیں بھیجا، مگر دنیا جہان کے لوگوں پر مہربانی کے لیے۔

۶۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔

سورۃ سیاء ۲۲ رکوع ۸ آیت ۲۸

ترجمہ: اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ایمان لانے پر ان کو ہمارے ثواب کی خوش خبری سننے والے اور ایمان نہ لانے پر ان کو ہمارے غضب و عذاب سے ڈرانے والے۔

۷۔ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سورۃ یسین شریف پارہ ۲۲ رکوع ۲۸ آیت ۳

ترجمہ: بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔

۸۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط

(پ کا سورۃ الاحزاب رکوع ۲ آیت ۱۱)

ترجمہ:- محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے ختم پر ہیں۔

## آپ کے عظیم اخلاق

۱۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پ ۲۹ سورۃ القلم آیت ۴

ترجمہ :- اور بے شک آپ اخلاقِ حسنہ کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں۔

۲۔ وَاللّٰهُ يُوصِيكَ مِنَ النَّاسِ ط پ ۳ سورۃ المائدہ رکوع ۳ آیت ۶

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

۳۔ الْمَن شَرَحَ لَكَ صَدْرَكَ وَرَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔

پارہ ۳ سورۃ الم نشرح رکوع ۱۹

ترجمہ :- کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ (علم و حکم) سے کشادہ نہیں کر دیا؟  
اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی  
تھی اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کیا۔

۴۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔

پ ۲ سورۃ آل عمران رکوع

ترجمہ ! اور محمدؐ نہ سے رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول  
تشریف لائے ہیں۔

## آپ کے مزاج کی نرمی

۵۔ بِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَكَوُنتَ نَضًا غَلِيظًا قَلْبًا

لَوْ تَقَوُّوْا مِنْ حَوْلِكَ۔ سورۃ آل عمران رکوع ۴ آیت ۱۰

ترجمہ :- اس کے بعد خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم

رہے اور اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے تو آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔

۶۔ هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔

پ ۳۳ سورۃ توبہ رکوع ۱ آیت ۳۳

ترجمہ:- وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ اس کو تمام رقیبہ دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔

۷۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ۔

پ ۳۳ سورۃ توبہ رکوع ۱ آیت ۳۳

ترجمہ:- اے لوگو! تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں جن کو تمہاری محضرت کی بات نہایت گراں گذرتی ہے جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہے ہیں اور یہ حالت سب کے ساتھ ہے بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔

۸۔ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً۔ آیت ۲ پ رکوع ۲۲

ترجمہ:-

۹۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔

پ ۳۳ سورۃ الرعد رکوع ۱ آیت ۲۴

ترجمہ:- آپ کے ذمہ تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے اور دار و گیر کرنا تو ہمارا کام ہے۔



۱۰۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا... إِنْ عَلَيْكَ

إِلَّا الْبُكْرَةُ رپ ۲۵ سورہ شوریٰ رکوع ۵ آیت ۴۸

ترجمہ: پھر اگر یہ لوگ یہ سن کر بھی اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگرانی کرنے والا نہیں بھیجا آپ کے ذمہ تو صرف حکم کا پہنچا دینا ہے۔

۱۱۔ وَعَظُمَ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔

رسورہ نساء رپ رکوع ۵ آیت ۶۳

ترجمہ: اور ان کو نصیحت فرماتے رہیں ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجئے۔

۱۲۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصْرِوْكَ مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّ اللَّهَ

عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ وَكَانَ

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا... رپ سورہ نساء رکوع ۳ آیت ۱۱۴

ترجمہ:- اور غلطی میں نہیں ڈال سکتے لیکن اپنی جان کو، اور آپ کو ذرہ برابر

نقصان نہیں۔ پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل

فرمائیں۔ اور آپ کو وہ باتیں بتلا دیں جو کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ اور آپ

پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔

۱۳۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ۔

رسورہ نساء رکوع ۲ پارہ ۶ آیت ۱۶۳

ترجمہ:- ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے

پاس بھیجی تھی۔

۱۴۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا...

رپ سورہ نساء رکوع ۲ آیت ۱۶۴

ترجمہ:- اس وقت کیا حال ہوگا، جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے۔

۱۵۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الْاِذْىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكِتٰبِ الَّذِىْ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ۔

رسورۃ نسا پ ۵ رکوع ۱۴ آیت ۱۳۶

ترجمہ:- اے ایمان والو! تم یقین رکھو، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو کہ پہلے نازل ہوئی تھی.....

۱۶۔ مَا عَلٰى الرَّسُوْلِ الْاِذَا الْبَلَغُ... (سورۃ مائدہ پ ۵ رکوع ۲ آیت ۹۹)

رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔

۱۷۔ اِتَّبِعْ مَا وُحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔

رسورۃ الانعام پ ۱ رکوع ۱۸ آیت ۷۸

ترجمہ:- آپ خود اس طریقہ پر چلتے رہیں کہ جس کی وحی آپ کے پاس رب کی طرف سے آئی ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

۱۸۔ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ الْبَيِّنَاتِ الْاُومِی الَّذِىْ يَجِدُوْنَہُ مَكْتُوْبًا

عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرٰتِ وَالْاِنْجِیْلِ یَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

وَيَنْہَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰتِ وَیُحَرِّمُ

عَلَيْهِمُ الْخَبٰیثٰتِ تَاْوْلٰکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

پ سورۃ الصافات رکوع ۱ آیت ۱۷۵

ترجمہ:- جو لوگ ایسے رسول نبی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان کو نیک

باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بُری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں سو جو لوگ اس نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔

## آپ کی عام نبوت

۱۹۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ سورہ الاعراف رکوع ۷ آیت ۷۸

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہان کے لوگو! میں تم سب کی طرف اُس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں (پیغمبر ہوں) جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندگی وہی دیتا ہے اور وہ ہی موت دیتا ہے، آپ کہیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ایسے نبی اُمّی پر جو کہ خود اللہ پر اور ان کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان نبی کا اتباع کرو تاکہ تم راہِ راست پر آ جاؤ۔

## غور و فکر کی ایک دعوت

۲۰۔ اَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا، سَكَنَتْ، مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ اِنْ



هُوَ الَّذِي يُذِيْرُ مُبِيْنٌ - پ سورۃ الاعراف رکوع ۱۲ آیت ۱۸۳  
ترجمہ :- کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ ان کا جن سے ساتھ  
ہے اُن کو ذرا بھی جنوں نہیں۔ وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے  
والے ہیں۔

۲۱۔ اِنَّا لَآ نَذِيْرٌ وَّيَسِيْرٌ نِّقَوْمٍ تَوْمِنُوْنَ۔

پ سورۃ الاعراف رکوع ۳

ترجمہ :- تو محض احکام شرعیہ بتا کر ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب  
سے ڈرانے والا ہوں۔ اُن لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

۲۲۔ وَاطِيعُوا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

پ سورۃ انفال رکوع

ترجمہ :- اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

۲۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا

يُحْيِيْكُمْ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهُ

اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ۔ پ سورۃ انفال رکوع ۱۴ آیت ۲۴۔

ترجمہ :- اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لاؤ جب کہ

رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چنیر کی طرف بلائے ہوں۔ اور ایمان رکھو کہ

اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان۔

اور بلاشبہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔

۲۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَخُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْا اِمَّا نَا تَلْمِزُوْا

وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ سورۃ انفال پ رکوع ۱۴ آیت ۲۴۔

ترجمہ :- اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں

خلل مت ڈالو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو اور تم کو اس کا نقصان وہ پہنچا جانتے ہو۔

۲۵۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لِيَسْتَغْفِرُوا (سورہ انفال رکوع ۶)

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ اُن میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب دیں اور نیز اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب نہ دیں گے کہ جس حالت میں وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔

۲۶۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَعَلَّوْا وَتَذٰهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔

ترجمہ :- اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۲۷۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ الْوَيْة۔

آیت ۲۷ پ سورہ انفال رکوع ۷

ترجمہ :- اے پیغمبر آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔

۲۸۔ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ اَكْفُرُ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔

پ ۷ سورہ ہود رکوع ۷

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔

## ہر ایک قوم کے لیے نبی اور ہادی

۲۹۔ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ پ سورۃ الرعد رکوع ۱ آیت  
ترجمہ:- آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر ایک قوم کے لیے ہادی ہوتے  
چلے آتے ہیں۔

۳۰۔ كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ  
لِّتَتْلُوْا عَلَيْهِمُ الَّذِیْ اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ وَهُمْ یَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ۔

سورۃ الرعد پ ۳۱ رکوع ۱ آیت ۳۰

ترجمہ:- اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ  
اس امت سے پہلے اور بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان کو وہ  
کتاب پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجی ہے

## انبیاء کے لیے اہل و عیال

۳۱۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّزُرِیَّةً۔

سورۃ الرعد پ ۳۲ رکوع ۱ آیت ۳۱

ترجمہ:- اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے اور ہم نے  
ان کو بیویاں اور بچے بھی دیئے اور کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں کہ ایک  
آیت (یعنی نشانی) بھی بغیر خدا کے علم کے لائے۔

۳۲۔ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِاِسْنٰنٍ قَوْمٍ لِّیَبْیِّنَ لَهُمْ فِیْضِلٍ  
اللّٰهُ مَنْ یَّشَآءُ وَیَهْدِیْ... مَنْ یَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ۔

پ ۱۳ سورۃ ابراہیم رکوع ۱ آیت ۳۲



خلل مت ڈالو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو اور تم کو اس کا نقصان دہ ہونا جانتے ہو۔

۲۵۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لِيَسْتَغْفِرُوا (سورہ انفال رکوع ۶ پ)

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ اُن میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب دیں اور نیز اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب نہ دیں گے کہ جس حالت میں وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔

۲۶۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَعَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

ترجمہ :- اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۲۷۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ الْاِيَةِ۔

آیت ۲۷ پ سورہ انفال رکوع ۷

ترجمہ :- اے پیغمبر آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔

۲۸۔ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ دَعَاكُمْ مِنْهُ نَذِيْرًا وَبَشِيْرًا۔

پ ۱ سورہ ہود رکوع ۱

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔

## ہر ایک قوم کے لیے نبی اور ہادی

۲۹۔ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ پک سورۃ الرعد رکوع ۱ آیت  
ترجمہ:- آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر ایک قوم کے لیے ہادی ہوتے  
چلے آتے ہیں۔

۳۰۔ كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ  
لِّتَتْلُوْا عَلَيْهِمُ الَّذِیْ اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ وَهُمْ یَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ۔  
سورۃ الرعد پ ۳ رکوع ۹ آیت ۳۰

ترجمہ:- اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ  
اس امت سے پہلے اور بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان کو وہ  
کتاب پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجی ہے

## انبیاء کے لیے اہل و عیال

۳۱۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ زُرِّیَّةً۔

سورۃ الرعد پ ۳ رکوع ۱۱ آیت ۳۱

ترجمہ:- اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے اور ہم نے  
اُن کو بیویاں اور بچے بھی دیئے اور کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں کہ ایک  
آیت (یعنی نشانی) بھی بغیر خدا کے علم کے لائے۔

۳۲۔ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِاِسْنٰنٍ قَوْمٍ لِّیَبْیِّنَ لَهُمْ وَّ یُضِلُّ  
اللّٰهُ مَنْ یَّشَاءُ وَیَهْدِیْ... مَنْ یَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ۔

پ ۱۳ سورۃ ابراہیم رکوع ۱۲ آیت ۳۲

ترجمہ :- اور ہم نے تمام پہلے پیغمبروں کو (بھی) اُن ہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان سے احکام الہیہ بیان کریں پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں یہ سب امور پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔

۳۳۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَاَسْأَلُوْا هَلْ اَلذِّكْرَانِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔

پ ۱۲ سورۃ النحل رکوع ۳۳ آیت ۳۳

ترجمہ :- اور آپ سے پہلے بھی ہم نے آدمی ہی ان کی طرف (نبی بنا کر) بھیجے تھے اس لیے یاد رکھنے والوں سے پوچھیں اگر تم کو معلوم نہیں۔

۳۴۔ تَاٰلِهٖ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ..... فَهَوٰى لِيْهِمُ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابُ الْاٰلِیْمِ

پ ۱۳ سورۃ النحل رکوع ۳۳ آیت ۳۴

ترجمہ :- قسم ہے اللہ کی ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف فرقوں سے رسول بنا کر بھیجے پھر شیطان نے اُن کو ان کے کام اچھے کر کے دکھائے سو وہ ہی ان کا آج رفیق ہے اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے۔

۲۵۔ رَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لَتَّیْنٍ لَّهُمُ الَّذِیۡ اِخْتَلَفُوْۤا بَیْنَ وَهْدٰی وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ مُّؤْمِنُوْنَ۔

پ ۱۴ سورۃ النحل رکوع ۳۴ آیت ۲۵

ترجمہ :- اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اسی لیے نازل کی ہے کہ آپ ان کو وہ چیز کھول کر سنا دیئے جس میں جھگڑا ہے ہیں اور سیدھا راستہ بتلانے کے لیے اور ایمان لانے والوں کی بخشش کیلئے۔



۳۴۔ رَیْوْمَ نَبِیُّعَتَ فِی کُلِّ اُمَّةٍ شَهِیدٌ عَلَیْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَ  
جِئْنَا بِكَ شَهِیدًا عَلٰی هٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ  
تَبٰیٰنًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرٰی لِّلْمُسْلِمِیْنَ۔

پ ۱۴ سورۃ النحل رکوع ۱۸ آیت ۸۹

ترجمہ :- اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر ایک فرقہ میں سے ان پر ایک  
بتلائے والا اُن ہی میں سے اور ان لوگوں پر آپ کو یائیں گواہی کے لیے۔  
اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی کھد بیان ہر چیز کا اور ہر آیت اور  
رحمت اور خوش خبری حکم ماننے والوں کے لیے۔

### اہل و عیال کے لیے تبلیغ کا حکم

۳۵۔ وَامْرَاہْلَکَ بِالصَّلٰوۃِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْہَا لَا نَسْئَلُکَ رِزْقًا  
نَحْنُ نَرْزُقُکَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقٰوٰی۔

سورۃ طہ پ ۱۶ رکوع ۱۲ آیت

ترجمہ :- اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور خود بھی قائم رہو، ہم آپ  
سے روزی نہیں مانگتے ہم آپ کو روزی دیتے ہیں اور بہتر گاہروں کا  
انجام بہتر ہے.....

### رسولوں کی ایک ہی دعوت

۳۸۔ وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْ اِلَیْہِ اَنْۢہٗ لَا  
اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ۔۔۔

سورۃ طہ پ ۱۶ رکوع ۱۱ آیت ۳۲

ترجمہ:- اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اس لیے میری ہی عبادت کرو۔

**دنیاوی مال و دولت کو لالچ کی نگاہ سے دیکھنے کی ممانعت**

۳۹۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ لَنَفْقَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَآبَقَىٰ۔

پ ۱۶ سورہ طہ رکوع ۱۶ آیت ۱۳

ترجمہ:- اور اسے پیغمبر آپ اپنی آنکھیں نہ بساویں اس چیز پر جو کہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے دی ان طرح طرح کے لوگوں کو دنیا کی رونق کی زندگی کے جانچنے کو۔

۴۰۔ فَإِنَّمَا يَسْتِيرُ بِهِ لِيُثَبِّرَنَّكَ، لِيُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا۔ پ ۱۶ سورہ صریم رکوع ۱۶ آخری آیات

ترجمہ:- ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں اس لیے آسان کر دیا تا کہ آپ دھرنے والوں کو خوش خبری سنائیں اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرائیں۔

**قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد**

۴۱۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ

سورہ طہ پ ۱۶ آیت ۱۷

ترجمہ:- ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں لیکن نصیحت کے لیے جو ڈرتا ہے۔

۴۲۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سورہ طہ رکوع ۱۲ پ آیت ۱۱۲

ترجمہ :- اور قرآن پڑھنے میں قبل اس کے کہ آپ پر وحی پوری نازل ہو چکے، عجلت نہ کیجئے اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے۔

### انبیاء علیہم السلام کی بشری ضروریات

۲۳۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهُمْ لِيَاكُلُوا الطَّعَامَ  
وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔

پ ۱۸ رکوع ۱۴ آیت ۲۳

ترجمہ :- اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم میں ایک دوسرے کو جانچنے کے لیے رکھا ہے تاکہ دیکھیں کہ ثابت بھی رہتے ہو اور تمہارا پروردگار سب کچھ دیکھتا ہے۔

۲۴۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

ترجمہ :- آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن خدا تعالیٰ ہی جس کو چاہے سیدھے راستہ کی ہدایت کر سکتے ہیں۔

۲۵۔ وَقُلْ إِنَّا الْنَذِيرُ وَالْمُبِينُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ  
الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ۔ پ ۲ رکوع ۲ سورہ الحجرات آیت ۱۹

ترجمہ :- اور کہہ دیجئے کہ میں کھلم کھلا (تم کو) عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں جیسا کہ ہم نے وہ عذاب ان لوگوں پر نازل کیا ہے جنہوں نے حق



کر رکھے تھے یعنی آسمانی کتاب پر مختلف اجزاء قرار دیئے تھے۔

۴۶۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔

سورۃ احزاب پ ۲۲ رکوع آیت ۵۴

ترجمہ :- اے نبی ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ مومنین کو بشارت دینے والے ہیں اور کفار کو ڈرانے والے ہیں اور سب کو اللہ کی طرف اُس کے حکم سے بلانے والے ہیں اور آپ تو ایک روشن چراغ ہیں۔

### درود شریف پڑھنے کا حکم

۴۷۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.....

سورۃ احزاب پ ۲۲ آیت ۵۶

ترجمہ :- بے شک اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر اے ایمان والو! تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔

۴۸۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.....

سورۃ احزاب پ ۲۲ رکوع ۱

ترجمہ :- اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ایمان لانے پر ان کو ہماری رضا و ثواب کی خوش خبری سنانے والے اور

ایمان نہ لانے پر اُن کو ہمارے غضب و عذاب سے ڈرانے والے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۴۹۔ اِنَّا ارْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيرٌ.....

سورۃ فاطر پ ۲۲ رکوع ۱۲ آیت ۲۹

ترجمہ :- ہم ہی نے آپ کو دین حق دے کر خوش خبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی اُمت ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔

۵۰۔ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوا اَمْرَ الرَّسُولِ ۚ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

سورۃ یسین پ ۲۳

ترجمہ :- یسین قسم سے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ منجملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے راستہ پر ہیں۔

۵۱۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۚ وَيُخَوِّفُوْكَ بِالَّذِيْنَ مِثْ دُوْتِهٖۚ وَمَنْ يُّضِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔

سورۃ زمر پ ۲۴ رکوع ۱ آیت ۳۶

ترجمہ :- کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کافی نہیں اور یہ لوگ آپ کو ان جھوٹے مہودوں سے ڈراتے ہیں جو خدا کے علاوہ تجویز کر رکھے ہیں اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

۵۲۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ سورۃ مومن پ ۲۴ رکوع ۱۳ آیت

ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں بعض تو وہ ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعض وہ ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان نہیں کیا۔

## حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد

۵۳۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءِ الْمُرْسَلِ أَذْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَرَبُّكُمْ  
إِنْ اتَّبِعِ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.....

سورۃ احقاف پ ۲۷ رکوع ۱ آیت ۹

ترجمہ:- آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کے ذریعہ آیا ہے اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں.....

## آپ کے لیے قرآن کی بشارت

۵۴۔ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّإِغْفَارِ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ  
وَمَا تَأَخَّرَ وَبِئْسَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ، وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا  
مُسْتَقِيمًا۔ سورۃ فتح پ ۲ رکوع ۱ آیت ۱۔

ترجمہ:- بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پھلی خطائیں معاف فرما دے۔  
اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل فرما دے اور آپ کو سیدھے راستہ پر لے چلے۔



۵۵۔ اِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعَزَّوْا عَنْ مَّوَدَّةِ الْكَافِرِيْنَ وَنَسَبْ حُوَّةَ بَكْرَةَ وَاصْبِلَا۔

سورہ فتح پ ۲۱ رکوع ۱۱ آیت ۹

ترجمہ:- ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اُس کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہو۔

۵۶۔ هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا۔

سورہ فتح پ ۲۶ رکوع ۱۱ آیت ۲۸

ترجمہ:- وہ اللہ ایسا ہے کہ اُس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی گواہ ہے۔

## سب کے رسول

۵۷۔ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ؛ پ ۲۱ سورہ جمعہ رکوع ۱۱ آیت ۱

ترجمہ:- وہ ہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں اُن ہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر جو کہ اُن کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور اُن کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمہ سے پاک کرتے ہیں اور ان کو

کتاب اور دانشمندی کی باتیں سکھاتے ہیں اور یہ لوگ آپ کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

## رسول کی شان

۵۸۔ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً۔

ترجمہ: یعنی ایک اللہ کا رسول جو کہ ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔

پ ۳ سورہ بینہ رکوع ۲۲

۵۹۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَدِرْ شَانِئَكَ

هُوَ الْاَوْبَدُ۔ پ ۳ سورہ کوثر رکوع ۳۳

ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو (حوض) کوثر دی ہے اس لیے (ان نعمتوں کے شکریہ میں) آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔

۶۰۔ اَلَا لِهَمِّ الذِّكْرِ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ۔

پ ۲۵ سورہ الدخان رکوع ۱۳ آیت ۱۱۳

ترجمہ: ان کو اس سے کب نصیحت حاصل ہوتی ہے حالانکہ اس کے قبل ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا۔

## قرآن اور تقدیر انسانی

۱۔ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ**

مَعْلُومٍ۔ پ ۱۴ سورۃ الحج رکوع ۷ آیت ۲۱

ترجمہ :- اور ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب کے خزانے کے خزانے  
بھرے پڑے ہیں اور ہم اس چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔

۲۔ **وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، يَنْقُذُ فَا سَكْنَتُهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا**

عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ۔ پ ۱۵ سورۃ المؤمن آیت ۱۷

ترجمہ :- اور ہم نے آسمان سے مناسب مقدار کے ساتھ پانی برسایا پھر  
ہم نے اس کو مدت تک زمین میں ٹھہرایا اور ہم اس پانی کے معدوم  
کرنے پر بھی قادر ہیں۔

۳۔ **وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرًا تَقْدِيرًا۔**

سورۃ الفرقان پ ۱۱ آیت ۷

ترجمہ :- اور اس نے ممکنات میں سے ہر چیز کو پیدا کیا پھر  
سب کا الگ الگ انداز رکھا۔

۴۔ **وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا۔**

سورۃ احزاب پارہ ۲۲ رکوع ۷ آیت ۳۸

ترجمہ :- اور اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا پہلے سے ہوتا ہے۔

۵۔ **وَقَدْ نَفَعْنَاهُمَا السَّيْرُ سَيْرُهُمَا لِيَاكِلِي وَيَا مَاءَ أَمِينِينَ۔**

پ ۱۳ سورۃ سبارکوع ۷ آیت ۱۸

ترجمہ :- اور ہم نے اُن کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا کہ



بے خون و خطر ان میں راتوں اور دنوں کو چلو۔

## چاند کی منزل

۶۔ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔

(سورہ یسین پ ۳۷ رکوع ۱۱ آیت ۳۹)

ترجمہ :- اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ۔

## انسانوں کے لیے غذائیں

۷۔ وَقَدْ رَفِعْنَا قُرْآنَهُنَّ أَفْوَاقًا ۖ اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ سَوَاءٍ لِّلسَّائِلِينَ.....

(پ ۲۲ رکوع ۱۵ آیت ۱۱)

ترجمہ :- اور اس میں یعنی زمین میں اُس کے رہنے والوں کی غذائیں چار دن میں تجویز کر دیں (وہ چار دن) شمار میں پورے ہیں۔

۸۔ وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ.....

(سورہ شوریٰ رکوع ۲ آیت ۲۷)

ترجمہ :- لیکن جتنا رزق چاہتا ہے مناسب انداز سے ہر ایک کے لیے اتارتا ہے۔

۹۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ اَمْرٍ قَدَرٍ.....

(پ ۲۷ سورہ قمر رکوع ۱۱ آیت ۱۲)

ترجمہ :- پھر آسمان و زمین کا پانی اس کا، پورا ہونے کے لیے مل گیا۔

۱۰۔ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.....

سورۃ واقعہ پ ۲۷ رکوع ۷

ترجمہ :- ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو (معیّن وقت پر) ٹھہرا رکھا ہے اور تم اس سے عاجز نہیں ہیں۔

۱۱۔ وَاللّٰهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔

پ ۲۹ سورۃ مزمل آیت ۷ رکوع ۱۳

ترجمہ :- اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔

۱۲۔ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔

سورۃ المرسلات پ ۲۹ رکوع ۲۱ آیت ۲۳

ترجمہ :- ہم نے (ان تصرفات کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہے ہم کیسے اچھے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔

۱۳۔ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ۔ سورۃ عبس پ ۳

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نے کسی حقیر چیز سے پیدا کیا پھر (اس کے اعضاء کا) اندازہ ٹھہرایا۔

۱۴۔ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ۔

ترجمہ :- جس نے ٹھیک بنایا پھر راہ بتلائی۔

## نزول قرآن سے متعلق آیاتِ کریمہ

۱۔ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

پ۔ الم۔ سورۃ البقرہ رکوع ۲۲

ترجمہ:- اگر تم کچھ خلیجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ رہتے ہو رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔

۲۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

پارہ ۱۔ الم۔ سورۃ البقرہ رکوع ۱۰۷

ترجمہ:- انہوں نے (یعنی جبریلؑ نے) یہ قرآن حکم خداوندی سے آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے اس کی خود یہ حالت ہے یہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی آسمانی کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوش خبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔

## ”ماہِ رمضان“

۳۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ۔ پ۔ سورۃ البقرہ رکوع ۱۰۷

ترجمہ:- وہ ماہِ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے جس کا ایک وصف



یہ ہے کہ دونوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور دوسرا وصف، واضح

الدلالة ہے منجملہ ان کتب کے جو کہ ذریعہ ہدایت بھی ہیں.....

۲۔ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔

پ ۳ سورہ آل عمران رکوع ۸ آیت ۳

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ

اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو کہ اس

سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔

۵۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ۔

(رکوع ۹ پ ۳ سورہ آل عمران آیت ۷)

ترجمہ :- وہ (اللہ) ایسا ہے کہ جس نے نازل کی تم پر کتاب کہ جس میں کایک

حصہ وہ آیات ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں اور یہی آیات اصلی ہند ہیں۔

۶۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ.....

آیت ۳ پ ۵ سورہ دخان رکوع ۱۲

ترجمہ :- ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں یعنی

شب قدر میں اتارا۔

## قرآن عربی

۷۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا تَعْلَمُوهُ تَعْقِلُونَ۔

سورہ یوسف پ ۲۵ سورہ زخرف رکوع ۳ آیت ۳

ترجمہ :- ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ اے عرب! تم

آسانی سے سمجھ لو، اور وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے رتبہ کی اور

حکمت بھری کتاب ہے۔

۸۔ اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ قَلِيلًا تَوَابِعِدِيثٍ مِّثْلِهِ  
 اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ۔ رپک سورہ طور رکوع ۱۷ آیت ۲۳  
 ترجمہ :- کیا یہ واقعی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے  
 بلکہ یہ لوگ تصدیق نہیں کرتے، تو یہ لوگ اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے  
 آئیں اگر واقعی یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔

## قرآن کریم کی شان

۹۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ لَا يَمْسُهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ  
 تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

(سورہ واقعه پ ۲ رکوع ۱۶)

ترجمہ :- یہ ایک مکرم قرآن ہے ایک محفوظ کتاب (یعنی لوح محفوظ میں  
 درج ہے) کہ اس کو پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔  
 ۱۰۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلًا وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ  
 وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتُّلًا۔ سورہ دھرپ ۲۹ آیت ۱۹،

ترجمہ :- ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا کر کے اتارا ہے سو آپ اپنے پروردگار  
 کے حکم پر کہ اس میں تبلیغ بھی داخل ہے مستقل رہیے۔

۱۱۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ پ ۳ سورہ القدر

ترجمہ :- ہم نے اُس (یعنی قرآن کریم) کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔

قرآن کریم نازل کرے کا مقصد قرآنی آیات کی روشنی میں

۱۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔

پ ۱۔ سورہ مائدہ کا رکوع ۱۱ آیت ۱۵۱

برحق کتاب

۲۔ وَأَنْزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

الْكِتَابِ۔ ر آیت ۱۱۱ سورہ مائدہ پ ۱۱ رکوع ۱۱۱

ترجمہ :- ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جو کہ خود بھی تصدیق کے ساتھ موصوف ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔

گذشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی آسمانی کتاب

۳۔ وَهَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔۔۔۔۔

(سورہ مائدہ کا رکوع ۱۱ پ ۱۱)

ترجمہ :- اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جو بڑی برکت والی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس پاس والوں کو ڈرائیں۔

۴۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ

فَعَلَيْهَا۔ سورہ (انعام) پ ۱۱ رکوع ۱۱ آیت ۱۰۵

ترجمہ :- بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے



ذرائع پہنچ چکے ہیں سو، جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔

۵۔ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا.....

سورۃ یونس پ ۱۱ رکوع ۵۱ ایت ۱۸

ترجمہ:- آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس دین حق تمہارے پروردگار کی طرف سے (دلیل کے ساتھ) پہنچ چکا ہے اس لیے جو شخص راستہ پر آجائے گا تو وہ اپنے نفع کے واسطے راہ راست پر آئے گا۔

## آپ پر نازل کیا ہوا ذکر

۶۔ وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ پ ۱۱ سورۃ نحل رکوع ۱۱ ایت ۴۴

ترجمہ:- اور آپ پر بھی یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ سے ظاہر کر دیں اور تاکہ وہ اُن میں فکر کیا کریں۔

## ہر ایک چیز کو بیان کرنے والی کتاب

۷۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ (سورۃ نحل پ ۱۱ رکوع ۱۱ ایت ۸۹)

ترجمہ:- اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو کہ ہر چیز کا، شافی بیان ہے اور ہدایت و رحمت و خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔

۱۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ  
الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا.....

پ ۵۱ سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۱

ترجمہ :- بلاشبہ یہ قرآن اپنے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو کہ بالکل سیدھا  
ہے یعنی اسلام اور ایمان والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں یہ خوش خبری دیتا  
ہے ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا۔

### مومنین کے لیے شفاء اور رحمت

۹۔ وَتَنْزِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ

الظَّالِمِيْنَ اِلْحْسَارًا۔ (سورۃ بنی اسرائیل ۵۱ رکوع ۱ آیت ۹)

ترجمہ :- اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے  
حق میں توشفاء اور رحمت ہیں اور ظالموں کو اس سے اور اُلٹا نقصان بڑھتا

ہے۔

## قرآن اور معجزاتِ انبیاء کرامؑ

۱۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّلُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُحْيِيكُمْ  
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .... سورۃ بقرہ پارہ ۱ رکوع ۱ آیت ۱۷

ترجمہ: اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو جسم کے کسی ٹکڑے سے چھو اور اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو.....

۲۔ ۱۵۱ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...  
(سورۃ بقرہ رکوع ۱۷ آیت ۱۷)

ترجمہ: وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے پانی کی دعا کی۔ اس پر ہم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔

## طور بہار کو معلق کر دینا

۳۔ ۱۵۱ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...  
۱۵۲ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...  
۱۵۳ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...  
۱۵۴ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...  
۱۵۵ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...  
۱۵۶ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...  
۱۵۷ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...  
۱۵۸ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...  
۱۵۹ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...  
۱۶۰ اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ...

ترجمہ:- اور ہم نے جب تم سے قول و قرار لیا کہ تو ریت پر عمل کرو گے اور ہم نے طور بہار کو اٹھا کر تمہارے اوپر (محاذات میں) معلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔

۱۔ گوشت کے ٹکڑا لگ جانے سے مردہ کا زندہ ہونا بطور معجزہ کے تھا۔



۴۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سورۃ بقرہ پ ۱ رکوع ۷ آیت ۶۵

ترجمہ :- اور تم جانتے ہی ہو حال اُن لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے  
تجاوز کیا تھا اُس حکم سے متعلق جو کہ ہفتہ کے دن سے متعلق تھا اور ہم نے  
اُن سے کہہ دیا کہ تم بندیر ذلیل بن جاؤ۔

۵۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ بِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوفٌ حَذَرَ  
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ.....

پ ۲ رکوع ۱۵ سورۃ بقرہ آیت ۱۳۳

ترجمہ :- کیا تم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جو کہ اپنے گھروں سے موت کے  
خوف کی وجہ سے نکلے پھر خداوند قدوس نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ پھر  
خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا.....

## تسوسال تک مردہ رکھنا

۶۔ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُدُوتِهَا قَالَ اَنَّى

يُحْيِي هَذِهِ اِنَّ اللّٰهَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ

بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ

بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ

يَتَسَنَّه۔ سورۃ بقرہ پ ۳ رکوع ۲ آیت ۲۵۹

ترجمہ :- یا تم انے اُس شخص کو نہیں دیکھا جو کہ ایک شہر کے پاس سے گزرا  
جو کہ گرا پڑا تھا، اپنی چھتوں پر، اُس نے کہا کہ خدا تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد  
کیسے زندہ کرے گا، پھر خدا تعالیٰ نے اس شخص کو تسوسال تک موت کی

حالت میں رکھا، یعنی وہ شخص تئیس سال تک مردہ رہا، پھر اسکو زندہ کر اٹھایا اور پھر پوچھا کہ تو کتنے زمانہ تک ایسی حالت میں رہا اس نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، اس سے کہا کہ نہیں تم ایک تئیس سال تک اسی حالت میں رہے تم اپنا کھانا پینا دیکھو جو کہ نہیں سڑا۔

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے متعلق حضرت ابراہیم کا معجزہ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُبَيِّنَ لِّقُلُوبِي ۖ قَالِ زَحْزَازَةً مِّنَ الْظُّلُمِ فَضَرَهْتَ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۲۶

آیت ۲۶ پ سورہ بقرہ رکوع ۳

ترجمہ:- اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیمؑ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجئے آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے؟ ارشاد فرمایا کیا تم یقین نہیں لاتے۔

انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لانا لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تم چار پرندے لے لو پھر ان کو رپال کر اپنے لیے ہلاؤ پھر ہر ایک پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑے ہوئے چلے آئیں گے۔

## بطور معجزہ بچہ کا گود کی عمر میں کلام کرنا

۸۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔

سورہ آل عمران پ ۳ رکوع ۱۲۔ ۳۶

ترجمہ :- اور وہ (یعنی حضرت عیسیٰ) گہوارہ میں اور بڑی عمر میں انسانوں سے کلام کریں گے اور وہ شائستہ لوگوں میں ہوں گے۔

## حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ

۹۔ اِنِّي اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفِخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللَّهِ تَاِذَا نَكُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ۔

سورہ آل عمران پ ۳ رکوع ۱۲ آیت ۲۹

ترجمہ :- میں تم لوگوں کے لیے مٹی سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسی پرندہ کی شکل ہوتی ہے پھر اس کے اندر پھونک مارتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور کوڑھ کے مریض کو اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں خدا کے حکم سے،

## غزوہ بدر میں ایک معجزہ

۱۰۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ مَا نِ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ۔



بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فِرْعَسٍ هَٰذَا يُمْدِدُ رُكْمُ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔

پ ۱ سورہ آل عمران رکوع ۳۔ آیت ۱۲۳

ترجمہ: یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بدر یعنی غزوہ بدر میں مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار رہو جب کہ آپ مسلمانوں سے اس طرح فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ بات کافی نہ ہوگی کہ تمہارا پروردگار تمہاری امداد کرے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے۔

ہاں کیوں نہیں، اگر مستقل رہو گے اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آپہنچیں گے، تو تمہارا پروردگار تمہاری امداد فرمائے گا، پانچ ہزار فرشتوں سے جو کہ ایک خاص وضع سے بنائے ہوئے ہوں گے۔

**بطور معجزہ گناہوں کی وجہ سے فرعونوں کی گرفت**

۱۱۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ۔ سورہ اعراف پ ۱ رکوع ۵۔ آیت ۱۳۰

ترجمہ:- اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی، پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا۔

**بطور معجزہ، بنی اسرائیل میں طوفان وغیرہ**

۲۔ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفْتَلَاتٍ۔ سورہ اعراف پ ۱ رکوع ۵۔ آیت ۱۳۳

ترجمہ: پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کپڑا، اور میڈرک اور خون اور رب کے کھلے معجزے

## لاٹھی کا معجزہ کے طور پر اڑدھابن جانا

۱۲۔ فَالْقَوْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعْنَا يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِ ۚ پ ۹ رکوع ۵۱ آیت ۱۲

ترجمہ:- آپ نے فرما اپنا عصا ڈال دیا، سو دھنچکا وہ ایک اڑدھابن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ ایک دم سب دیکھنے والوں کے سامنے ہست ہی چمکیلا ہو گیا۔

## معجزہ کے طور پر پہاڑ کا مسلط کر دینا

۱۳۔ وَاذْنَقْنَا الْجَبَلَ فَوَقَّهُمْ كَانَتْ ظِلَّةٌ وَظَنُّوهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔  
سورۃ الاعراف ۱۹ رکوع ۵۱ آیت ۱۳

ترجمہ:- اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر مسلط کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ (جلدی) قبول کرو جو کتاب ہم نے دی ہے یعنی تورات اور مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔

## بطور معجزہ فرشتوں کی مدد

۱۵۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنَّا مُمِدُّكُمْ بِالْبَیِّنِ

مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ سورۃ الانفال پ ۱ رکوع ۱۱ آیت ۹

ترجمہ :- اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دینگا جو کہ سلسلہ وار چلے آئیں گے۔

### غزوہ حنین میں ایک معجزہ

۱۶ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ لَا يَوْمَعُدَّيْنِ إِذْ  
أَعَجَبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ  
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ  
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا  
لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔

پ ۱ سورۃ توبہ رکوع ۱۱ آیت ۱۶

ترجمہ :- اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا پھر وہ کثرت تمہارے لیے کچھ کارآمد نہیں ہوئی اور تم پر زمین باوجود فراخی کے تنگی کرنے لگی پھر آخر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قلب پر اور دوسرے مومنین کے قلوب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی اور مدد کے لیے ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی اور یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے۔



## حضرت یوسفؑ کا ایک معجزہ

۱۷۔ وَرَأَوْنَاهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَجِيْ اَحْسَنَ مَثْوٰی ط

اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ۔ سورۃ یوسف پارہ ۲ رکوع ۱۷ آیت ۲۳

ترجمہ:- اور جس عورت کے گھر میں یوسفؑ رہتے تھے وہ ان پر فریضہ ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھیلانے لگی اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے اور ان سے کہنے لگے آ جاؤ تم ہی سے تو کہتی ہوں۔

یوسفؑ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بچائے دوسرے وہ (یعنی تیرا شوہر میرا ربی اور محسن) ہے سمجھ کر کیسی اچھی طرح رکھا ایسے حق فراموش کو فلاح نہیں ہوا کرتی۔

## حضرت یوسفؑ کا والد کی خدمت میں کرتہ بھیجنا

۱۸۔ اِذْ هَبُوا بَقِيصَیْ هٰذَا فَالْقَوْهُ عَلَىٰ وُجُوْهِ اٰبِیْ یٰسَیْرَا۔

سورۃ یوسف پارہ ۳ رکوع ۳ آیت ۹۳

ترجمہ:- اب تم میرا کرتہ بھیجے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرہ پر ڈال دو اسی سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔

## معجزہ کے طور پر حضرت یعقوبؑ کا حضرت یوسفؑ کی خوشبو سونگھنا

۱۹۔ قَالَ الْوَهَّابُ اِنِّیْ لَاجِدُ رِیْحِ یُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تَفِیْدُوْنَ۔

سورۃ یوسف پارہ ۳ رکوع ۴ آیت ۹۴

ترجمہ :- ان کے (یعنی حضرت یوسفؑ کے) والد نے کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی ہوئی باتیں کرنے والا بنے سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو یوسفؑ کی خوشبو آ رہی ہے۔

### بطور معجزہ ایک رات میں طویل ترین سفر

۲۰۔ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ يَدْرَأُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ - سورۃ بنی اسرائیل ۱۲ رکوع ۷ آیت ۷

ترجمہ :- وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندہ کو رات کے وقت مسجد حرام (یعنی مسجد کعبہ) سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گئی۔

### بطور معجزہ اصحاب کہف کا غار میں پناہ لینا

۲۱۔ إِذَا وَى الْقِفْئَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى الْأَنْهَارِ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا - پہلے سورۃ کہف رکوع ۳ آیت ۱۱

ترجمہ :- وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ اُن نوجوانوں نے اُس غار میں جا کر پناہ لی پھر کہا کہ ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے، اور ہمارے لیے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجئے اس لیے ہم نے اُس غار میں اُن کے کانوں پر سالہا سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تا کہ ہم معلوم کر لیا کہ ان دونوں گروہ میں کون گروہ ان کی برہنہ کی مدت سے زیادہ واقف تھا۔

بطور معجزہ سورج کا اصحاب کہف کے غار سے ہٹ کر چلنا

۲۲۔ وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ  
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ  
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۚ ۝۱۳ سُوْرَةُ الْكَهْفِ رُكُوْعٌ ۝۱۴ آیت ۱۲۔

ترجمہ :- اور اسے مخاطب جب دھوپ نکلتی ہے تو تو اس کو دیکھے گا کہ وہ  
دائیں جانب کو بچی رہتی ہے اور جب چھپتی ہے تو بائیں طرف ہٹی  
رہتی ہے اور وہ لوگ اُس غار کے ایک فراخ موقع میں تھے ۔ یہ اللہ تعالیٰ  
کی نشانیوں میں سے ہے ۔

تین سو سال تک اصحاب کہف کا غار میں رہنا

۲۳۔ وَكَبُرُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ۝۱۵

پ ۱۵ سورۃ الکہف رکوع ۱۵ آیت

ترجمہ :- اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور نو سال  
مزید رہے ۔

بطور معجزہ حضرت خضرؑ کے ہاتھ سے مردہ مچھلی کا دوبارہ زندہ ہونا

۲۴۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ  
أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَبَسَ بِهِنَّ تَهُمَا  
فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝۱۶

سورۃ الکہف پ ۱۵ رکوع ۱۶ آیت ۱۵۔



ترجمہ :- اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰؑ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں (اس سفر میں) برابر چلا جاؤں گا۔ یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملے ہیں یا اسی طرح زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا پس جب (چلتے چلتے) دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے اُس اپنی پھلی کو دونوں بھول گئے اور پھلی نے دریا میں اپنی راہ لی۔ اور چل دی۔

۲۵۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پ ۳ سورہ مريم رکوع ۷ آیت ۷۱

ترجمہ :- اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریمؑ کا بھی تذکرہ کیجیے جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو کہ مشرق کی جانب میں تھا غسل کے لیے گئیں۔ پھر اُن گھر کے لوگوں کے سامنے انہوں نے پردہ ڈال لیا پس اس حالت میں ہم نے اُن کے پاس اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجا۔ اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔

### بطور معجزہ حضرت مریمؑ پر پھلوں کی بارش

۲۶۔ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَوْ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا۔ پ ۱۶ سورہ مريم آیت ۲۵

ترجمہ :- پس آواز دی اُس کو اس کے نیچے سے کہ غمگین مت ہو کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ (ترجمہ شیخ الہند)

کھجور کے تنہ کو بڑ کر اپنی طرف کو بلاؤ اس سے تم پر تازہ کھجوریں جھڑیں۔  
۲۷۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔

پ ۱۶ سورۃ مریم آیت ۱۹۔

ترجمہ:- وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کس طرح باتیں کریں  
 جو کہ ابھی گود میں ہے۔

### حضرت عیسیٰ کا معجزہ

۲۸۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَنِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔

ترجمہ:- وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں اس نے مجھ  
 کو کتاب یعنی انجیل دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا۔

سورۃ مریم پارہ ۱۷ رکوع ۷۔

۲۹۔ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ فَإِلَاقُهَا فَادَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى۔

پ ۱۶ سورۃ طہ رکوع ۱۱ آیت ۷۔

ترجمہ:- ارشاد ہوا اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو تو انہوں نے اس  
 کو ڈال دیا، ایک دم وہ خدا کی قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ  
 بن گیا۔

### جادو گروں کی نظر بندی

۳۰۔ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَنَّ أَدْلَ مِنْ أَلْفَىٰ

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِیَالُهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يَخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ

سِحْرِهِمْ فَأَنَّهُمْ تَسْعَى۔ پ ۱۶ سورۃ طہ رکوع ۱۱ آیت ۷۔

ترجمہ: پھر انہوں نے کہا کہ اسے موسیٰ آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں۔ آپ نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو! پس ایک دم ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے موسیٰ کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسی کہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوں۔

۳۱۔ قَالَ فَادْعُ فَإِنَّكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ۔

پ سورہ طہ رکوع ۳۱ آیت ۷

آپ نے فرمایا تو بس تیرے لیے اس دنیاوی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہنا چھوے گا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگنا۔

## حضرت ابراہیمؑ کے لیے آگ کا چمن بن جانا

۳۲۔ قُلْنَا إِنَّا لَمُؤْتِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔

سورہ الانبیاء پ ۷ رکوع ۷ آیت ۷

ترجمہ: تو اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اسے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا ابراہیمؑ کے حق میں۔ اور اُن لوگوں نے اُن کے ساتھ برائی کرنا چاہی تھی تو ہم نے اُن ہی لوگوں کو ناکام کر دیا۔

## حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں کا تسبیح کرنا

۳۳۔ وَتَجِدُنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَّالِ يُسَبِّحُ حَتَّىٰ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔

پ سورہ الانبیاء رکوع ۳

ترجمہ: اور ہم نے داؤد کے ساتھ تالیف کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ ان کی تسبیح



کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی (تابع کروایا تھا) اور کرنے والے ہم تھے۔

### حضرت سلیمانؑ کے لیے ہواؤں کا مسخر ہونا

۳۴۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔

سورۃ الزّٰہر پ ۱۷ رکوع ۷ آیت ۸

ترجمہ :- اور ہم نے سلیمانؑ کا زوردار ہوا کو تابع بنا دیا تھا کہ وہ اُن کے حکم سے اُس سرزمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔  
(مراد ملک شام ہے)

۳۵۔ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ اصْحَابُ

مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ۔ سورۃ الشعراء پ ۱۷ رکوع ۷ آیت ۹

ترجمہ :- غرض ایک روز سورج نکلنے کے وقت فرعون کے لشکر نے اُن کو پیچھے سے جالیا۔ پھر دونوں جماعتیں آپس میں ایسی قریب ہوئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰؑ کے ساتھی رگھبرا کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ بس ہم تو ہاتھ آگئے۔

### حضرت موسیٰؑ کا ایک معجزہ

۳۶۔ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِتُكُم مِّنْهَا

بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِنُجَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔

سورۃ نمل پ ۱۹ رکوع ۷ آیت ۷

ترجمہ :- اس وقت کا واقعہ یاد کیجئے جب کہ موسیٰؑ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے میں ابھی جا کر وہاں سے تمہارے پاس آگ کا شعلہ لکڑی وغیرہ میں لگا ہوا لاتا ہوں ۔ تاکہ تم سینگو۔

### حضرت سلیمانؑ کا ایک معجزہ

۳۷۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔

سورۃ النمل پ ۱۹ رکوع ۱۶ آیت ۱۷

ترجمہ :- اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد اُن کے قائم مقام سلیمان علیہ السلام ہوئے اور انہوں نے اظہارِ شکر کے لیے کہا کہ اے لوگو! ہم کو پرندوں کی بولی سیکھنے کی تعلیم کی گئی ہے۔

اور ان کو سامانِ سلطنت کے متعلق ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا صاف فضل ہے۔

۳۸۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْإِنبَاءِ

لَوْ عَذِّبْتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَوْ ذُبحْتُهُ أَوْ كُنتَ بَيْنِي وَسُلْطَانِ

مُبِينٍ۔ پ ۱۹ سورۃ النمل

ترجمہ :- ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ سلیمانؑ نے پرندوں کی حاضری لی تو انہوں نے ہڈی نہیں دیکھا فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہڈی کو نہیں دیکھتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اس کو غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔

## معجزاتِ سلیمانی

۳۹۔ اَرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ رَّاقِبَةٍ لَّهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اِذْ لَّهُ وَهْمٌ صَاعِرُونَ۔

پ ۱۹ سورۃ النمل آیت ۲۷ رکوع ۷

ترجمہ :- تم ان کو لے کر ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ سو ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ لوگوں سے ان کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا ہم ان کو وہاں سے ذیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے ماتحت ہو جائیں گے۔

## حضرت موسیٰ کے لیے معجزاتی مدد

۴۰۔ وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اَمِّ مُوسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ نَاٰلِقِيْهِ فِى الْيَمِّ۔ وَ لَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ اِنَّا رَاٰدُوْهُ اِلَيْكَ وَ جَاعِلُوْهُ مِنْ الْمُرْسَلِيْنَ۔ پ ۷ سورۃ القصص رکوع ۳ آیت ۷

ترجمہ اور جب موسیٰ پیدا ہوئے تو ہم نے موسیٰ کی والدہ کو اہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ پھر جب تم کو ان کی نسبت جاسوسوں کے مطلع ہونے کا اندیشہ ہو تو بے خوف و خطر ان کو دریا میں ڈال دینا۔ اور غرق سے اندیشہ نہ کرنا اور نہ جدائی سے غم کرنا کیوں کہ ہم ضرور ان کو پھر تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے۔



## قرآن ایک معجزہ

۴۱۔ اَرْكَمُ يَكْفِيهِ۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَرْحْمَةٌ وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ مُّؤْمِنُوْنَ۔

پ ۱۱ سورۃ العنکبوت رکوع آیت ۷

ترجمہ :- کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ان کو سنائی جاتی رہتی ہے بلاشبہ اس کتاب میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے۔

## اہل ایمان کی مدد، ایک معجزہ

۴۲۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ مِّنَّا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا۔ سورۃ الاحزاب رکوع ۱۱ آیت ۹

ترجمہ :- اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی ہی نعمت کو یاد کرو جب تم پریت سے لشکر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر رگبار پر ایک آندھی بھیجی جو کہ تم کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔

## حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ

۴۳۔ وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِّنَّا فَضْلًا وَّيَجِبَالٌ اَوْبٰى مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّٰلَهُ الْحَدِيْدُ لِاَن اَعْمَلَ سَبِيْعَتٍ وَقَدَّرْنٰى السَّيْرُ وَاَعْمَلُوْا صَالِحًا فَاِنَّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ؕ وَلَسٰى لَكُمْ

الرِّيحِ غَدُوَهَا شَهْرًا وَرَاحَهَا شَهْرًا وَاسْلُكَاكَ عَيْنِ  
الْفُطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ۔

سورۃ السباع پ ۲۲ رکوع ۷ آیت ۱۱

ترجمہ:- اور ہم نے داؤدؑ کو اپنی طرف سے یہ نعمت دی تھی کہ اسے پہاڑ،  
داؤد علیہ السلام کے ساتھ بار بار تسبیح کرو اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم  
دیا اور ہم نے ان کے واسطے لوسے کو مثل موم کے نرم کر دیا، اور یہ  
حکم دیا کہ تم پوری زمین بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ رکھو اور  
تم سب نیک کام کیا کرو میں تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔

۲۲۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔

إِذَا بَقِيَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ  
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ  
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ  
سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِئِينَ۔

پ ۲۳ سورۃ الصافات رکوع ۷ آیت ۱۴

ترجمہ:- بے شک حضرت یونسؑ نبیوں میں سے تھے جب کہ وہ بھلے کشتی  
کی طرف پھر قرعہ اندازی ہوئی یہ مغلوب ہو گئے پھر ان کو بچھلی نے نگل لیا  
اور وہ خود اپنے اوپر ملامت کرنے لگ گئے پس اگر وہ (خدا تعالیٰ کی)  
پاک بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک وہ اُسی کے پیٹ میں  
رہتے۔ پس ہم نے ان کو چیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت  
بیمار تھے اور ہم نے ان پر ایک کدو کی قسم کا سایہ کرنے والا درخت  
اگادیا۔

۴۵۔ وَذَكَرْ عَبْدًا نَادَاؤَدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَتَابَ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ  
مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ  
لَهُ آتَابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ  
الْخَطَابِ۔ پ ۲۳ سورہ ص رکوع ۱۱ آیت ۲۸

ترجمہ :- اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے اور وہ خدا کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے  
ہم نے پہاڑوں کو حکیم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں۔ اور پرندوں کو بھی حکم کر  
رکھا تھا جو کہ (تسبیح کے وقت) ان کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے اور یہ سب انکی وجہ سے ذکر میں مشغول رہتے  
تھے اور ہم نے انکی سلطنت کو نہایت قوت دی تھی اور ہم نے ان کو حکمت و فیصلہ کر دینے والی توفیق عطا فرمائی تھی۔

### معجزات سلیمانی ایک نظر میں

۴۶۔ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ  
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔

پ ۲۳ سورہ ص رکوع ۱۱ آیت ۳۸

ترجمہ :- نیز ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ جانا  
چاہتے ہیں نرمی سے چلیں اور ہم نے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا یعنی  
تعمیر بنانے والوں کو بھی اور غوطہ خوروں کو بھی۔

### حضرت ایوبؑ کا ایک معجزہ

۴۷۔ وَذَكَرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ  
بِنُصَبٍ وَعَذَابٍ أُرْكَضُ بِيحْلِكَ هَذَا مَغْتَاسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٍ۔

پ ۲۳ سورہ ص رکوع ۱۱ آیت ۴۲



ترجمہ:- اور آپ ہمارے بندے ابوب کو بھی یاد کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور تکلیف پہنچایا ہے اپنا پاؤں مارو یہ غسل کرنے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پیئے گا۔ (ٹھنڈا پانی ہے)  
 ۴۸۔ وَاتْرِكِ الْبَحْرَ دَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ۔

پ ۲۵ سورۃ الدخان رکوع ۱۲ آیت ۲۷

ترجمہ:- اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا ان کا تمام لشکر غرق کر دیا جائے گا۔

۴۹۔ وَبَشِّرِ دُجَّةً بِغَلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔

پ ۲۶ سورۃ الذاریات رکوع ۱۸ آیت ۳۱

ترجمہ:- اور ان کو ایک لڑکے کی خوش خبری دی جو کہ بڑا عالم ہو گا اتنے میں ان کی بیوی بولتی اور پکارتی آئیں پھر انہوں نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ (میں) بڑھیا رہی ہوں یا تجھ۔

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ

۵۰۔ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْتَقَى الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّهُمْ أَمْرٌ مُّسْتَقَرٌّ۔ سورۃ القمر پ ۲ رکوع ۱۱ آیت ۱۲

ترجمہ:- قیامت نزدیک آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو کہ ابھی ختم ہوا جاتا ہے اور ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں

کی پیروی کی اور ہر بات کو قرار آجاتا ہے۔

## معجزہ کے طور پر قوم لوط کو اندھا کر دینا

۵۱۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا

عَذَابِي وَنُذِرَ بِكَ سُورَةُ الْقَمَرِ رُكُوعٌ ۷

ترجمہ :- اور ان لوگوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو بے ارادہ سے لینا چاہا ہم نے اس لیے ان کی آنکھیں چوٹ کر دیں کہ لوط میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔

## ایک معجزہ واقعہ ابابیل

۵۲۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

فِي تَضْلِيلٍ ۚ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ ۙ تَرْمِيهِمْ

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۙ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِيَ ۚ

پ ۳ سورۃ فیل آیت ۷

ترجمہ :- کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا ان کی تدبیر کو جو کہ دیران کعبہ کے بارے میں تھی سر تبا یا غلط نہیں کر دیا؟ اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے۔ جو کہ ان لوگوں کے اوپر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ سوائد تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح پامال کر دیا۔

# قرآن اور فقہی احکام

## احکام طہارت

### وضو، تیمم، غسل کے احکام

۱۔ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْكُمْ  
وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ  
اِلَى الْكَعْبَيْنِ - سورۃ المائدہ پ ۱ رکوع ۵ آیت ۷

ترجمہ :- اے ایمان والو! جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہرہ کو دھوؤ  
اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں سمیت دھوؤ، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو  
اور اپنے سروں کو بھی ٹخنوں سمیت۔

۲۔ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰی اَوْ عَلٰی  
سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ الْمَسَاءَ  
فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا  
بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيكُمْ مِنْهُ -

سورۃ المائدہ پ ۱ رکوع ۵ آیت ۷

ترجمہ :- اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تمام بدن پاک کرو اور  
اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجی سے  
آیا ہو یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین  
سے تیمم کرو یعنی اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔



## حیض کا حکم

۳۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔

سورہ یقرہ پ ۷ رکوع ۱۱ آیت ۲۲۲

ترجمہ: لوگ آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں؛ آپ فرمادیجئے کہ وہ گندگی ہے اس لیے عورتوں سے حالت حیض میں علیحدہ رہا کرو۔

## احکام نماز

### قرآنی آیات کی روشنی میں

۱۔ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔

سورۃ بقرہ پ ۲ رکوع ۴۳ آیت ۴۳

ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔

۲۔ سَافِرُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔

سورۃ بقرہ پ ۲ رکوع ۱۲ آیت ۲۲۱

ترجمہ: محافظت کرو سب نمازوں کی (عموماً) اور درمیان والی نماز کی خصوصاً

اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔

### نماز پنجگانہ سے متعلق آیت کریمہ

۳۔ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ الْبَيْتِ وَحُرَاتِ

الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ الْبَيْتِ فَتَهَجِّدْ بِهِ

نَافِلَةً لَّكَ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔

سورۃ بنی اسرائیل پ ۱۵ رکوع ۱۷ آیت ۱۷

ترجمہ: آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیا

کیجئے اور صبح کی نماز بھی.... بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے

کا وقت ہے اور کسی قدر رات کے حصہ میں تو اس میں تہجد پڑھا کیجئے جو کہ

آپ کیلئے زائد چیز ہے امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں

جگہ دے گا۔

## نماز قصر سے متعلق آیت کریمہ

۱۔ وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا  
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ  
كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ پ ۷ سورۃ النساء آیت ۱۰۱

ترجمہ :- اور جب تم ملک میں سفر کرو تم پر گناہ نہیں کہ کچھ کم کرو نماز میں سے  
اگر تم کو ڈر ہو کہ ستائیں گے تم کو کافر۔ البتہ کافر تمہارے صریح  
دشمن ہیں۔

## نماز خوف اور قرآن

۲۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ  
مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ فَاذْأَسْجِدُوا فَالْيَكُونُوا  
مِنَ ذَرَائِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ كَمَا يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا  
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بِأَحْذَرِهِمْ وَاسْلُحْتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
كَوْتَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ  
مَّيْلَةً وَاحِدَةً۔ پ ۷ سورۃ النساء رکوع ۱۱ آیت ۱۱۲

ترجمہ :- اور جب آپ ان میں موجود ہوں اور آپ کو نماز پڑھانے کے لیے  
کھڑا کیا جائے تو ایک جماعت کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان  
کو اپنے ہتھیار ساتھ لے لینا چاہیے پھر جب یہ سجدہ کریں تو آپ کے پاس  
سے ان کو ہٹ جانا چاہیے۔ اور دوسری جماعت کو آجانا چاہیے کہ جس نے  
نماز نہیں پڑھی اور ان کو آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے اور اپنے ہتھیار



ساتھ لے لینا چاہیے۔

۳۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ طَرَفٍ أَوْ كُنْتُمْ

مَرْضًى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ سورۃ النساء پارہ ۵ رکوع ۱۱ آیت ۱۱

ترجمہ: اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو تکلیف ہو بارش سے یا تم بیمار ہو کہ اتار

رکھو اپنے ہتھیار اور ساتھ لے لو اپنا دفاع کا سامان، بے شک اللہ تعالیٰ

نے کافروں کے واسطے زنت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۴۔ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

فَإِذَا أَهْمَانْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ

الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُؤْتًى۔ پ سورۃ النساء رکوع ۱۱ آیت ۱۲

ترجمہ: پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے،

پھر جب خون جمار سے تودرت کر و نماز گھر بے شک نماز مسلمانوں پر

فرض ہے اپنے مقرر اوقات میں۔

۵۔ الَّذِينَ سَمِعُوا صَلَواتِهِمْ يُخْشَعُونَ۔ پ سورۃ المؤمنون رکوع ۱۱

ترجمہ: جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

۶۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ پ سورۃ نور رکوع ۱۱ آیت ۱۳

ترجمہ: وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنگو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور بائیں خصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے

سے نہ خرید و غفلت میں ڈالنے پائی ہے اور نہ فروخت۔

۷۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔

ترجمہ :- اسے ایمان والا واجب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جا یا کرے تو تم اللہ تعالیٰ کا یعنی نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو خرید و فروخت اور اسی طرح دوسری مشغولیات چھوڑ دیا کرو کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔

## ریا کار نمازی

۸۔ اَزَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْدينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَيَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُعْذَرُونَ لَا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ سورۃ الماعون پ ۳  
ترجمہ :- کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے جو کہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے سو، اگر آپ اس شخص کا حال سننا چاہیں (تو سنئے) وہ شخص ہے جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا سو، اس سے ثابت ہوا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو کہ اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں (یعنی ترک کر دیتے ہیں، جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ریا کاری کرتے ہیں نفلی زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے۔

۹۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَا فِي الدُّلِّ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔

ترجمہ :- اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اس میں نماز بھی آگئی ہے آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے مثلاً نماز مغرب عشاء، اور دن کے اول و آخر میں تاکہ آپ کو جو ثواب ملے آپ اس سے خوش ہوں۔

## قرآن اور زکوٰۃ و صدقات کے احکام

۱۔ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط

پ سورۃ بقرہ رکوع ۷ آیت ۵

ترجمہ:- آپ فرمادیں جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو، سو، ماں باپ کا حق ہے  
اور قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں اور مسافروں کا۔

۲۔ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پ سورۃ بقرہ رکوع ۷

ترجمہ:- اور خدا کے راستہ میں خرچ کیا کرو۔

۳۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورۃ الانعام پ ۷

ترجمہ:- اور کھیتی کٹنے کے دن اُن کا حصہ نکال دیا کرو۔

## صدقات کا مصرف

۴۔ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ۔ پ سورۃ توبہ رکوع ۳۱ آیت ۶

ترجمہ:- صدقات کو صرف حق ہے غریبوں کا، اور محتاجوں کا، اور جو کارکن

ان صدقات پر متعین ہیں اور جن کی دل جوئی کرنا منظور ہے اور غلاموں

کی گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرضہ میں اور جہاد میں اور

مسافروں میں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔



۵۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ

ذَلِكَ قَوَامًا..... (پ سورۃ الفرقان رکوع ۳۱ آیت ۷)

ترجمہ :- ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

۶۔ وَمَا تَنْتُمُ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ۔ (سورۃ روم پ ۲۱ رکوع ۷)

ترجمہ :- اور جو زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی خوشنودی طلب کرتے رہو گے تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے

۷۔ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمُ اللَّهُ لَوْجَهُ اللَّهُ لَا تَرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا۔

ترجمہ :- ہم تم کو محض خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے اس کے متعلق بدلہ چاہیں اور نہ اس کا کوئی شکریہ چاہیں۔

## قرآن اور احکام حج

۸۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا۔

سورۃ بقرہ رکوع ۱۴ آیت ۱۲۵

ترجمہ :- اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے عبادت کرنے کی جگہ ہمیشہ سے مقرر رکھا، اور مقام ابراہیم میں کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنالیا کرو،

۹۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِّلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ..... سورۃ آل عمران

ترجمہ :- یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو مکہ میں ہے جسکی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور دنیا جہاں کے لوگوں کیلئے رہنما۔

۱۰۔ وَاذْكُرْنَا لِلْطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.....

پ کا سورۃ الحج آیت ۲۶

ترجمہ :- اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شرک مت کرنا اور میرے اس گھر کو، طواف کرنے والوں کے اور نماز میں قیام و رکوع و سجدہ کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا۔

### سعی صفا و مروہ

۱۱۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ  
وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا.....

سورۃ بقرہ پ کا رکوع ۲ آیت ۱۵۸

ترجمہ :- صفا اور مروہ منجلیہ یا دیگر دینی خداوندی ہیں تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا اس کا طواف کرے اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان آمد و رفت کرنے میں۔

۱۲۔ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔

سورۃ بقرہ رکوع ۱۲ آیت ۱۲۵

ترجمہ :- اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنالیا کرو۔

۱۳۔ وَيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔

ترجمہ :- اور ان ہی آیات معلومات میں اس مامون گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔

## مسائل روزہ، اعتکاف شب قدر

۱۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ..... سورۃ بقرہ پ ۱۔

ترجمہ:- اسے ایمان والو! فرض کیا گیا تم پر روزہ، جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلے لوگوں پر تاکہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔

## روزہ کس وقت تک

۲۔ ثُمَّ رَأَيْتُمُ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ..... پ ۲

ترجمہ:- پھر پورا کرو روزہ کو رات تک۔

۳۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ - سورۃ بقرہ پ ۱ رکوع ۱۲

ترجمہ:- اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک رکھا کرو بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے۔

## روزہ رکھنے کا حکم

۴۔ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ سورۃ بقرہ پ ۱

ترجمہ:- تو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیئے



## بحالت اعتکاف جماع کی ممانعت

۵۔ وَلَا تَبَايَعُوا فِي الْبَيْتِ وَلَا تَبَايَعُوا فِي الْمَسَاجِدِ۔

پ ۱ سورہ بقرہ رکوع ۲ آیت ۸۲

ترجمہ:- اور نہ ملو، عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں۔

۶۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ كَيْلِكَ مُبَارَكَةً اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ.....

رسورہ دخان پ ۲ رکوع ۳ آیت ۳

ترجمہ:- ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔

۷۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ كَيْلِكَ الْقَدْرِ۔ سورہ القدر پ ۱

ترجمہ:- ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔

## حالت عمرہ میں سر کے بال کٹانا

۸۔ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رُسُوْلَهُ الرُّوْبَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ.....

سورہ فتح پ ۲ آیت ۲۶

ترجمہ:- بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا جو کہ واقعہ کے مطابق ہے کہ تم لوگ مسجد حرام یعنی مکہ میں انشاء اللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سر منڈانا ہوگا اور کوئی بال کترانا ہوگا تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا۔

## بحالت احرام نسکار کھیلنا

۹۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذِفُوا بِالْعُقُودِ حَلَلْتُ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَعْلَىٰ الصَّيْدِ وَانْتُمْ حُرْمٌ.....  
(پ ۶ سورۃ مائدہ)

ترجمہ :- اسے ایمان والو! عہد کو پورا کرو، تمہارے لیے جو پائے جو کہ مشابہ  
انعام یعنی اونٹ بکری گائے کے ہوں، حلال کیے گئے ہیں مگر جن کا ذکر  
آگے آتا ہے لیکن نسکار کو حلال نہ سمجھنا جس حالت میں کہ تم احرام میں ہو۔  
۱۱۔ يَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ  
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ  
الْفَقِير..... سورۃ حجرتا رکوع ۱۱ آیت ۲۸

ترجمہ :- تاکہ اپنے دینی اور دنیاوی فوائد کے لیے موجود ہوں اور اس لیے  
آئیں گے تاکہ ایام مقررہ یعنی ایام قربانی میں ان مخصوص چوپاؤں پر ذبح کے  
وقت اللہ کا نام لیں یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو  
عطا کئے ہیں اس لیے ان کی قربانی کے جانوروں میں سے تم کو بھی اجازت  
ہے کہ کھالیا کرو اور مستحب یہ ہے کہ مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلایا کرو۔

قربانی کے جانور میں کسی قسم کا عیب نہ ہونا چاہیے

۱۲۔ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔  
سورۃ الحجرتا رکوع ۱۱ پارہ ۱۱۔ آیت ۱۲

ترجمہ :- یہ بات تو ہو چکی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی وقعت کرے گا

توبہ وقت کرنا اس کے حق میں اس کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے۔  
 ۱۳۔ وَالْبُذُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ  
 فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ۔

سورۃ الحج پ ۱ رکوع ۱۱ آیت ۳۶

ترجمہ :- اور قربانی کے اونٹ اور گائے اور اسی طرح بھیڑ اور بکری کو  
 بھی ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے ان جانوروں میں تمہارے  
 لیے فائدے میں سو تم ان پر کھڑے کر کے ذبح کرنے کے وقت اللہ  
 کا نام لیا کرو۔

## احرام باندھنے کے بعد حج سے رک جانے کا حکم

۱۴۔ فَإِذَا أَحْمَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ  
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ۔ سورۃ بقرہ پ ۱ رکوع ۲۔

ترجمہ :- پھر اگر کسی دشمن یا مرض کے سبب روک دیئے جاؤ تو قربانی کا  
 جالور جو کچھ میسر ہو (ذبح کرو) اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت  
 منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے۔

## مریض کے لیے بجائے روزہ کے فدیہ کا حکم

۱۵۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ  
 مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔

پ ۲ سورۃ بقرہ رکوع ۱ آیت ۱۹۴

ترجمہ :- البتہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو



جس سے پہلے ہی سر منڈوانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ سر منڈا کر فدیہ  
 (یعنی اس کا شرعی صدقہ) دے دے تین روزے یا چھ مسکین کو خیرات  
 دے دینی چاہیے یا ایک بکری ذبح کرنے سے۔

## حج کے احکام و آداب

۱۶۔ الْحَجُّ أَشْهُدٌ مَّعْلُومَاتٌ خَمَسٌ فَرَضَ فِيهِكَ الْحَجُّ فَلَا  
 رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔

(پ ۲ سورۃ بقرہ رکوع ۱۷ آیت ۱۷)

ترجمہ:- زمانہ حج چند مہینے ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ (یعنی شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ  
 کی دس تا بیس تاریخیں اس لیے جو شخص اُن میں حج مقرر کرے تو پھر اس کو نہ کوئی بخش  
 بات جائز ہے نہ کوئی بے حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے۔

## حج کے لیے توشہ

۱۷۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔

(پ ۲ سورۃ بقرہ رکوع ۱۷ آیت ۱۷)

ترجمہ:- اور جب حج کو جانے لگو تو خرچہ ضرور لے جایا کرو۔

## حج میں عرفات سے واپسی کے وقت کا حکم

۱۸۔ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ۔ سورۃ بقرہ پ ۲ رکوع ۱۸ آیت ۱۸

ترجمہ:- پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس جانے لگو تو مشعر حرام کے پاس

(مزدلفہ میں) شب کو قیام کر کے خدا تعالیٰ کی یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو بتا رکھا ہے نہ یہ کہ اپنی رائے کو دخل دو۔

## تمتع کا حکم

۱۹۔ فَإِذَا أَنتُم مِّن تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمِنْ لَّمْ يَجِدْ فِصَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔

سورۃ بقرہ پ ۱ رکوع ۱۷ آیت ۱۹۶

ترجمہ:- پھر جب امن کی حالت میں ہو یا پہلے ہی سے کوئی خوف پیش نہ آیا ہو یا ہو کر جاتا رہا ہو تو جو شخص عمرہ سے اس کوچ کے ساتھ ملا کر تمتع ہوا ہو یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو تو جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے اور جس نے صرف عمرہ یا حج کیا ہو اس پر حج وغیرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہوا اس کے ذمہ تین دن کے روزے ہیں ایام حج میں اور سات جب ہیں جب کہ حج سے تمہاری واپسی کا وقت آجائے یہ پورے دن ہو گئے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی کعبہ کے قُرب میں نہ رہتے ہیں۔

۲۰۔ وَدِتْنَكُ حَوَامَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔

سورۃ نسا پ ۱

ترجمہ:- تم لوگ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے کہ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے (یعنی اپنی حقیقی، یا سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرو)

## نکاح کے حرام رشتوں کی تفصیل

۲۱۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَبَنَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

ترجمہ: تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، اور تمہاری بہنیں، اور تمہاری چھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں، اور بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری وہ بہنیں جو کہ دودھ پینے کی وجہ سے ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نہ رکھو لیکن جو پہلے ہو چکا.... بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے رحمت والے ہیں۔

## نکاح کے لیے ولی

فَانْكَحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ... سورۃ نسا پ ۵



ترجمہ:- تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے

## دوران عدت نکاح کے لیے رشتہ دینا

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي الْفُجْوَ... پ سورۃ البقرہ رکوع ۳

ترجمہ:- اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکورہ عورتوں کو پیغام (نکاح) دینے کے بارے میں کوئی بات اشارۃً کہو یا اپنے دل میں ارادۂ نکاح کو پوشیدہ رکھو اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ضرور ذکر کرو گے۔

وَأَقُولُ النِّسَاءُ صَدَقْتُهُنَّ نِحْلَةً - سورۃ النساء پ ۱

ترجمہ:- اور تم لوگ بیویوں کو ان کے ہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔  
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا  
لَهُنَّ فَرْيَضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى  
الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ - سورۃ بقرہ رکوع ۴

ترجمہ:- تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں اگر تم لوگ بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے اور صرف ان کو ایک جوڑا دے دو۔

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ إِحْدَى ابْنَتِي عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي  
ثَمَانِي حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ...  
سورۃ قصص پ ۲

ترجمہ:- وہ بزرگ موسیٰؑ سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں

میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں اس شرط پر کہ تم اٹھ سال میری  
توہری کرو پھر اگر تم دس سال پورے کرو یہ تمہاری طرف سے (احسان) ہے۔  
قَدْءَ لِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ  
لِيَكُوْنُ عَلَيْكَ حَرْجٌ.....

سورہ احزاب پارہ ۲۲

ترجمہ:- ہم کو وہ احکام معلوم ہیں جو ہم نے اُن پر اُن کی بیویوں اور باندیوں  
کے بارے میں مقرر کیے ہیں تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی واقع ہو۔

وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذَالِكُمْ اِنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ  
مُّحْصِنِيْنَ غَيْرِ مُسَافِحِيْنَ۔ سورہ نساء پ ۷ رکوع ۱۱ آیت ۲۲

ترجمہ:- اور اُن عورتوں کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں یعنی  
یہ کہ تم اُن کو اپنے مالوں کے ذریعہ سے چاہو۔

وَ اَتَوْهِنَّ اَجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ۔ سورہ نساء پ ۷ رکوع ۱۱ آیت ۲۵  
ترجمہ:- اور ان کو ان کے مہر قاعدہ کے موافق دے دیا کرو۔

## شوہر و بیوی کی اصلاح کیلئے حکم مقرر کرنا

۲۲۔ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاَبْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ  
وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَا اَصْلَاحًا يُؤْفِقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا  
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا۔

سورہ نساء پ ۷ رکوع ۱۱ آیت ۳۵

ترجمہ:- اور اگر تم دونوں کے درمیان شقاق ہو تو اپنے گھرانے کے  
لوگوں میں سے ایک آدمی جو کہ تصفیہ کرنے کی بیعت رکھتا ہو مرد کے

خاندان سے اور ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے ہو اگر دونوں آدمیوں کو اصلاح منظور ہو تو اللہ تعالیٰ ان شوہر و بیوی میں اتفاق فرمادیں گے۔

۲۳۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَتْنٌ وَتِلْكَ وَرَبَّاعٌ۔

ترجمہ:- اگر تم کو اس بات کا احتمال کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں نکاح کر لو دو، دو عورتوں سے، تین تین عورتوں اور چار چار عورتوں سے۔

## نکاح کی تاکید

۲۴۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَرْبَابِ مِنَ الْعِبَادِ لَكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔

سورۃ نور پ ۱۸ رکوع ۹ آیت ۳۲

ترجمہ:- اور تم میں (یعنی آزاد لوگوں میں) جو بغیر نکاح کے ہوں تم لوگ ان کا نکاح کر دیا کرو اور اس طرح تمہارے غلام اور باندیوں میں جو اس نکاح کے لائق ہوں اُس کا بھی نکاح کر دیا کرو اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔

## بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم

۲۵۔ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدُوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ.....

رپ سورۃ نسا رکوع ۱۵ آیت ۱۲۹



ترجمہ :- اور بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ جس سے اُس کو ایسا کر دو  
جیسے کوئی آدھر میں لٹکی ہوئی ہو۔

## رضاعت (دودھ کے رشتوں کے احکام)

۲۶۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ..... لِمَنْ

أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ۔ (سورۃ بقرہ ۲ رکوع ۱۳ آیت ۲۳۳)

ترجمہ :- اور مائیں، اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلایا کریں یہ بات  
اُس کے لیے ہے کہ جو کوئی دودھ پلانے کی مدت کی تکمیل کرنا چاہے۔

## دودھ چھڑانے کی مدت

۲۷۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔

پ ۳ سورۃ الاحقاف رکوع ۱ آیت ۵۱

ترجمہ :- اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اُس کا دودھ چھڑانا تین مہینے میں پورا  
ہوتا ہے۔

## قرآن اور بیوی کے حقوق

۲۸۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ۔

پ ۲ سورۃ بقرہ رکوع ۹ آیت ۱۸۲

ترجمہ :- وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔

۲۹۔ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ

پ ۳ (آیت ۲۳۳)

ترجمہ:- تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں اس لیے اپنے کھیت میں جس طرح سے ہو کر چاہو آؤ۔

۳۔ وَ عَلَى الْمَوْلودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔

رسورہ بقرہ رکوع ۱۳ آیت ۱۳۳

ترجمہ:- اور جس کا بچہ ہے (یعنی باپ) اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدہ کے موافق،۔

۳۱۔ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاَحِلَّ لَكُمْ مَا ذَرَاَعُ ذِلْكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَالْوَهْنَ اَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَّلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ سورۃ النساء ۵۔

ترجمہ:- اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والی ہیں مگر جو کہ تمہاری مملوک ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعہ سے چاہو اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ صرف شہوت رانی مقصد نہ ہو پھر جس طریقہ سے تم ان عورتوں سے منتفع ہو گئے ہو سو ان کو ان کے ہر دو، جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں اور مقرر ہونے کے بعد بھی جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔

۳۲۔ فَالصُّلَاحُ قُنِيتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالْفِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اَمْرٌ لَّوْهُنَّ فَاِنْ اطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۔ سورۃ نساء رکوع ۱۳ آیت ۳۲

ترجمہ :- جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددماغی کا احتمال ہو تو ان کو ربانی نصیحت کرو اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو پھرا کرو تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت تلاش کرو۔

## خواتین کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال

۴۳۔ وَیَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ لِوَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْلُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفَاتِ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِيَتَمَّى بِالْقِسْطِ۔

ترجمہ :- اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دیتے ہیں اور وہ آیات بھی جو کہ قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جایا کرتی ہیں جو کہ ان یتیم عورتوں کے باب میں ہیں جن کو جو ان کا حق مقر ہے نہیں دیتے ہو اور ان کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے باب میں اور اس باب میں کہ تپالی کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ پے سورہ نساء آیت ۱۲۶

## عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ممانعت

۴۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ بِبَعْضٍ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ۔



مَبِیَّنَةٌ۔ پ سورۃ نساء رکوع ۱۳ آیت ۱۹۔

ترجمہ:- اسے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے جبراً مالک ہو جاؤ اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ وصول کر لو مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں۔

### ظالم شوہر سے صلح

۳۵۔ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْدَاءً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ

پ سورۃ نساء رکوع ۱۵ آیت ۱۲۸۔

ترجمہ:- اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال بددماغی یا بے پرواہی کا ہو تو دونوں کو اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کریں اور یہ صلح بہتر ہے۔

### مردوں کے درجے

۳۶۔ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِأَمْوَالِهِمْ ۚ

پ سورۃ النساء رکوع ۱ آیت ۳۶۔

ترجمہ:- مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔

## نافرمان عورت کی سزا

۳۷۔ وَالَّتِي تَخَافُ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْذُوبُوهُنَّ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔

پاۓ سورۃ نساء آیت ۳۴ رکوع ۷

ترجمہ:- اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت تلاش کرو۔

## قرآن اور احکام طلاق

۱۔ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوَّتٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ بِاِحْسَانٍ۔

آیت ۲۹ پ ۲ سورۃ بقرہ رکوع ۱۱

ترجمہ: وہ طلاق دو مرتبہ کی ہے پھر خواہ رکھ لینا، قاعدہ کے موافق خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ۔

۲۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....

سورۃ بقرہ پ ۲ رکوع ۱۱ آیت ۲۲۸

ترجمہ: اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو (نکاح سے) روکے رکھیں تین حیض تک۔

۳۔ وَلَا يَحِلُّ لَهِنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ۔

پ ۲ سورۃ بقرہ رکوع ۱۱ آیت ۲۲۸

ترجمہ: اور ان عورتوں کو یہ بات جلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو (خواہ حمل ہو یا حیض) اس کو پوشیدہ رکھیں۔

## تین طلاق دینے کے بعد حلالہ کا حکم

۴۔ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰی تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا۔

پ ۲ سورۃ بقرہ (آیت ۲۳ رکوع ۱۲)

ترجمہ: پھر اگر کوئی عورت کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے شوہر کے ساتھ (عدت کے بعد) نکاح کرے۔

۱۔ اس جگہ نکاح سے مراد ہمبستری ہے جیسا کہ تفسیر مظہری میں ہے۔



۵۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

رسورۃ بقرہ پ ۵ رکوع ۱۲

ترجمہ: اور جب تم عورتوں کو (رجعی) طلاق دے دو، پھر وہ اپنی عدت گزرنے  
کے قریب پہنچ جائیں یا تم ان کو قاعدہ کے موافق رجعت کر کے نکاح میں  
رہنے دو یا قلمداد کے موافق ان کو رہائی دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے  
کی غرض سے مت رکھو اس ارادہ سے کہ ان پر ظلم کیا کرو۔

۶۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
فَتَمْتَعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

پ ۲۲ سورۃ الاحزاب رکوع ۲

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان  
کو ہاتھ لگانے سے قبل (کسی اتفاق سے) طلاق دے دو، تو تمہاری ان  
پر کوئی عدت واجب نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو تو ان کو کچھ مال و متاع  
دے دو اور خورجی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو،

۷۔ وَلَا يُعِدُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَوَاقِفٍ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ

پ ۲ سورۃ بقرہ رکوع ۱۷ آیت ۳۹

ترجمہ: اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ چھوڑنے کے وقت کچھ بھی لو  
اس میں سے جو تم نے ان کو مہر میں مال دیا تھا مگر یہ کہ شوہر و بیوی  
دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے۔

۸۔ وَإِنْ هَلَكَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ مِّمَّا فَرَضْتَ عَلَآ أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوا الَّذِي  
بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ۔

رسورۃ بقرہ پ ۲ رکوع ۱۲ آیت ۲۳۷

ترجمہ۔ اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو، قبل اس کے ان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف واجب ہے مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا نصف معاف کر دیں یا یہ کہ وہ شخص معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق ہے (یعنی شوہر)

۹۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرًا  
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرًا۔ (رسورۃ بقرہ رکوع ۱۵ پ ۲ آیت ۲۳۶)

ترجمہ۔ تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے اور صرف ان کو ایک جوڑا دے دو صاحب وسعت کے ذمے اس کی حیثیت کے موافق اور تنگ دست کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق۔

### مطلقہ کے لیے متعہ کا حکم

۱۰۔ وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔

ترجمہ۔ اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ کچھ فائدہ پہنچانا ہے قاعدہ کے موافق یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو کہ شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔

ایلاہ کا حکم یعنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کے احکام

۱۱۔ الَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيضًا أَرْبَعَةَ أَشْهُدٍ۔

ترجمہ :- جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس (جانے سے) ان کے لیے چار مہینہ تک کی عہلت ہے تو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ تعالیٰ معاف و رحمت فرمادیں گے۔

۱۲۔ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا لِي وَلَكِنَّهُمْ۔

(رکوع ۱ سورۃ مجادلہ پ ۱۸ آیت ۲)

ترجمہ :- جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں (مثلاً یوں کہہ دیتے ہیں کہ تو میری ماں کی بیٹی کی طرح ہے) وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں تو بس وہ ہی ہیں جنہوں نے ان کو جنما ہے۔

۱۳۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْلًا لَهُمْ وَتُنْجِزُ جَلْدَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پ سورۃ نور رکوع ۱ آیت ۱۱

ترجمہ :- اور جو لوگ اپنی منکوحہ بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنے ہی دعویٰ کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت جو کہ حد قذف ہو یہی ہے کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بے شک میں سچا ہوں اور پانچویں بار یہ ہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔



## عدت شمار کرنے کا حکم

۱۴۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ..... پ ۲۸ سورۃ الطلاق

ترجمہ: اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں  
کو طلاق دینے لگو تو ان کو زمانہ عدت یعنی حیض سے پہلے (یعنی طہر میں)  
طلاق دو اور تم عدت کو یاد رکھو۔

۱۵۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوْنًا عَالٍ مِنْكُمْ۔

رکوع ۱ سورۃ الطلاق پ ۲۸ آیت ۲

ترجمہ:- پھر جب وہ مطلقہ عورتیں اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ  
جائیں تو تم کو اختیار ہے یا تم ان کو قاعدہ کے موافق نکاح میں رہنے دو  
یا قاعدہ کے موافق ان کو رہائی دو اور آپس میں دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو۔

## حیض سے بالوس عورت کی عدت

۱۶۔ وَالَّتِي يَلْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَتْمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُدٍ وَالَّتِي كَمْ يَحِصْنَهُ۔

سورۃ الطلاق پ ۲۸ آیت ۴ رکوع ۱۶

ترجمہ:- اور تمہاری مطلقہ بیویوں میں سے جو عورتیں ازبادہ عمر یا کم عمر ہونے  
کی وجہ سے حیض آنے سے بالوس ہو جائیں اگر تم کو ان کی عدت کے  
اندیشہ ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہیں۔

۱۷۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔

سورۃ طلاق رکوع ۱۷ آیت ۱۷

ترجمہ: اور حاملہ عورتوں کی عدت اُس حمل کا پیدا ہونا ہے۔

## مطلقہ کے لیے سکنتی

۱۸۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ

لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ۔ سورۃ الطلاق پ ۲۸ رکوع ۱۷ آیت ۱۸

ترجمہ: تم ان مطلقہ عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تک رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے اس کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔

## حاملہ کی عدت

۱۹۔ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

سورۃ الطلاق پ ۲۸ رکوع ۱۷ آیت ۱۹

ترجمہ: اور اگر وہ مطلقہ عورتیں حبل کہ پہلے ہی سے بچے والیاں ہوں یا بچہ ہی پیدا ہونے سے ان کی عدت ختم ہوئی ہو تو ان کو کھانے پینے کا خرچہ دو۔

۲۰۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعَ لَهَا أُخْرَى۔

سورۃ الطلاق پ ۲۸ آیت ۲۰

ترجمہ: پھر اگر وہ مطلقہ عورتیں پہلے ہی سے بچے والیاں ہوں یا بچہ ہی پیدا ہونے سے ان کی عدت ختم ہو گئی ہو تمہارے لیے بچہ کو اجرت پر دودھ

پلائیں تو ان کو مقررہ اجرت اور اجرت کے بارے میں مناسب طور پر مشورہ  
کر لیا کرو۔

## قرآن میں چوری کی سزا

۲۱۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔

سورۃ المائدہ رکوع ۹

ترجمہ :- اور جو مرد چوری کرے یا جو عورت چوری کرے تو ان کے ہاتھ  
کاٹ دو، (یعنی ان کے دائیں ہاتھ گٹے پر سے کاٹ دو)

## قرآن میں ڈاکو کی سزا

۲۲۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي

الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأُ

رجلهم من خلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.....

پ ۱ سورۃ المائدہ رکوع ۹

ترجمہ :- اور جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک  
میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے  
جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالفت جانب سے کاٹ دیئے جائیں اور  
زمین پر سے نکال دیئے جائیں (یعنی شہر بدر کر دیئے جائیں)۔

۱۔ واضح رہے کہ یہ تمام احکام دارالاسلام کے ہیں اور یہ حدود صرف امیر المومنین یا قاضی  
ہی جاری کر سکتا ہے۔



## قرآن اور پردہ

۲۳۔ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بٰیوْتًا غٰیِرَ بَیْوَتِکُمْ حَتّٰی تَسْأَلُوْا  
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰی اَهْلِهَا ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذٰکُرُوْنَ۔

رسورۃ نور پ ۱۸ آیت ۲۹ رکوع ۱۸

ترجمہ :- اسے ایمان والو! تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے  
گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو اور  
اجازت لینے سے قبل ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی تمہارے  
لیے بہتر ہے۔ تاکہ تم خیال رکھو۔

۲۴۔ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بٰیوْتًا غٰیِرَ مَسْکُوْنَةٍ فِیْهَا  
مَتَاعٌ لَّکُمْ۔ پ ۱۸ آیت ۳۰

ترجمہ :- تم کو ایسے مکانات میں چلے جانے کا گناہ نہ ہوگا، جن میں کوئی نہ  
رہتا ہو ان میں تمہارا کچھ سامان ہو۔

۲۵۔ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَغْضُوْۤا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوْۤا فُرُوْجَهُمْ  
ذٰلِکَ اَزْکٰی لَّهُمْ۔ پ ۱۸ سورۃ نور رکوع ۳۰ آیت ۳۱

ترجمہ :- مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم  
گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔

۲۶۔ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ  
وَلَا یُذِیْنْنَ زِبٰیٰتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَیْسَ لِهِنَّ بِخُمْرٍ  
عَلٰی جُیُوْبِهِنَّ وَلَا یُذِیْنْنَ زِبٰیٰتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ  
اَوْ اَبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤیِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ

أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نَسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
إِيْمَانُهُمْ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْوَرِثَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْطِّفْلِ  
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَالِيتِ النِّسَاءِ۔

(پ ۱۱ سورۃ النور آیت ۳۱)

ترجمہ:- اور اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں  
نیچی رکھیں اور شرم گاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر  
نہ کریں مگر جو اس موقع زینت میں سے (غالباً) کھلا رہتا ہے جس کے ہر  
وقت چھپانے میں حرج ہے اور اپنے دوپٹے سینوں میں ڈالے رکھیں۔ اور  
اپنی زینت کے مواقع مذکورہ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں  
یا اپنے محارم پر یعنی باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر  
یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے حقیقی علاقہ اور خیافی بھائیوں پر  
یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی حقیقی علاقہ اور خیافی بہنوں کے بیٹوں  
پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنی باندیوں پر یا ان مردوں پر جو کہ طفیلی کے طور  
پر رہتے ہوں اور ان کو ذرا لوجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو کہ عورتوں  
کے پردہ کی باتوں سے ابھی ناواقف ہیں۔

۲۷۔ لِيَأْمُرُوا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُوا كَمَا لَدِ الَّذِينَ مَلَكَتْ إِيْمَانُكُمْ  
وَالَّذِينَ لَمْ يَلْبِسُوا الْحِلْمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ  
صَلَاةِ الْعَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ  
وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ۔ پ ۱۱ سورۃ النور رکوع ۱۲ آیت ۵۸

ترجمہ:- اسے ایمان والو! تمہارے پاس آنے کے لیے غلاموں کو اور  
تم میں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لینا چاہیے ایک

تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے جب تم (سوئے، لیٹے کے لیے) اور دوپہر کو اپنے بعض کپڑے اتار دیا کرتے ہو اور تمیر سے نماز عشاء کے بعد۔

## بالغ بچوں کے لیے ایک حکم

۲۱۔ وَإِذَا بَلَغَ الْوُدَّ فَالْمِنْكُمْ الْحُلْمُ فَلْيَسْتَاذِنُوا كَمَا اسْتَاذَنَ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ سُوْرَةُ النُّوْرِ پ ۱۸ رُكُوع ۱۲ آیت ۵۹

ترجمہ :- اور جس وقت تم میں سے وہ لڑکے جن کا حکم اور پر مذکور ہے، بلوغ کو پہنچیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسا کہ ان سے اگلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔

۲۹۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ

جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ

سُوْرَةُ النُّوْرِ پ ۱۸ رُكُوع ۱۲ آیت ۲۹

ترجمہ :- اور بڑی بوڑھی عورتیں جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی کچھ امید نہ ہو ان کو البتہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں بشرطیکہ وہ زینت کے مواقع کا اظہار نہ کریں۔



## وراثت اور وصیت کے احکام

۱۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا لَوَصِيَّةٍ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ۔ پ ۱ سورہ بقرہ

ترجمہ :- تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو موت، نزدیک معلوم ہونے لگے بشرطیکہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو تو والدین اور اقارب کیلئے معقول طور پر کہ مجموعہ ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو کچھ وصیت کر دے۔

۲۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ

يُبَدِّلُونَهُ..... إِنْ أَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

ترجمہ :- پھر جو شخص اس وصیت کے سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ اُن ہی لوگوں کو ہوگا جو کہ اس کو تبدیل کر دیں گے۔

۳۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أُمِرُوا أَهْلَكَ

لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ۔

سورہ نساء پ ۷ رکوع ۳ آیت ۱۱

ترجمہ :- لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلامہ کے بارے میں حکم دیتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور اس کے ایک عینی یا علاقہ بن ہو تو اس کے تمام ترکہ کا نصف ملے گا اور وہ شخص اس اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر وہ بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو۔

## وصیت کا حکم

۴۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ  
حِينَ الْوَحْيَةِ اثْنِ ذَوَاعِدٍ مِّثْلَكُمْ وَأَخَذَ مِنْ غَيْرِكُمْ  
إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ  
تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنَّ رُتْبَتَهُ  
لَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ  
اللَّهِ إِنَّا إِذَا التَّمِنَ الْاِثْمَيْنِ۔ سورۃ مائدہ رکوع ۷۲ پ ۷۱

ترجمہ :- اسے ایمان والو! تمہارے آپس میں دو شخصوں کا وصی ہونا مناسب  
ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے جب وصیت کرنے کا  
حق ہو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دین دار ہوں اور تم میں سے ہوں یا غیر  
قوم کے دو شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر واقعہ موت کا  
پڑ جائے اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں خدا  
کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے اگرچہ رشتہ دار  
بھی ہو۔ اور اللہ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے ہم اس حالت میں سخت گناہ کار ہوں گے۔

## مرد اور عورت کا حصہ

۵۔ يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْ كَانَ مِنْكُمْ حَظُّ الْوَنَّثٰتَيْنِ  
فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ  
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ سورۃ نساء پ ۷۱ رکوع ۷۲ آیت ۷  
ترجمہ :- اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں، بطور کے کا حصہ

دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اگرچہ دو زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑ کر مرا ہے اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔

## ماں باپ کا ترکہ میں حصہ

۴۔ وَلَا يُوْثِقُ لَكُمۡ وَآلُكُمۡ مِّمَّا تَرَكَتُمْ اِنْ كُنَّا  
لَكُمْ وَلَدًا فَاِنَّ لَكُمۡ لَهٗ وَلَدُ وَرَثَتِكُمۡ اَبَوَا۟هُ فَلَا مَرَّةَ  
اِلَيْهِمْ فَاِنْ كُنَّا لَكُمْ اِخْوَةً فَلَا مَرَّةَ اِلَيْهِمْ مِّنۡ مَّا تَرَكَتُمْ  
وَصِيَّةً يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دِيْنًا۔ سورہ نساء پ رکوع ۱۲ آیت ۱۱

ترجمہ:۔ اور ماں، باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے  
میت کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ ہے اگر میت کے کچھ اولاد ہو اور اگر  
اسی میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث  
ہوں تو اس کی ماں کا ایک تہائی ہے اور اگر میت کے ایک سے  
زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ  
کو ملے گا۔ وصیت نکال لینے کے بعد کہ تم اسی کی وصیت کر جاؤ یا دین کے بعد۔  
۵۔ وَاُولَآئِیۡہٗ اَرْحَمُ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ فِیۡ کِتٰبِ اللّٰہِ۔

سورہ انفال پ رکوع ۶

ترجمہ: اور جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں وہ ایک دوسرے کی  
میراث کے زیادہ حق دار ہیں۔

۱۔ لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْہٗ



اَوْ كَثْرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا... پ ۴ سورۃ النساء۔  
 ترجمہ ۱۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اُس چیز میں جس کو ماں باپ اور  
 بہت نزدیک کے رشتہ دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لیے حصہ  
 ہے اُس چیز میں جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے رشتہ دار چھوڑ  
 جائیں۔ خواہ چیز یعنی ترکہ (کم ہو یا زیادہ، حصہ قطعی ہے)

## عدت و فوات کا منسوخ حکم

۹۔ وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً  
 لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْاَحْوَالِ غَيْرِ اُخْرَاج۔ سورۃ بقرہ پ ۱  
 ترجمہ ۹۔ اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں  
 بیویوں کو۔ وہ وصیت کر دیا کریں اپنی بیویوں کے واسطے ایک سال تک  
 نفع حاصل کرنے کی، اس طریقہ پر کہ نہ وہ گھر سے نکالی جائیں، ہاں اگر خود  
 نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس قاعدہ کی بات میں ملے

## بیوی کے مال سے شوہر کا حصہ

۱۰۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ  
 فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بَهَا اَوْ دَيْنٍ ۝ پ ۱ سورۃ نساء رکوع ۱۲ آیت ۱۲

۱۰۔ یہ آیت کریمہ حکم کے اعتبار سے دوسری آیت کریمہ، آیت عدت و فوات اربعہ اشہد  
 وعشرانیہ منسوخ ہے۔

ترجمہ:- اور تم کو آدھالے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو تو تم کو ان کے ترکہ سے جو تھائی ملے گا وصیت نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔

### بیوی کا حصہ

۱۱۔ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْنَ لَكُمُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْنَ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ۔ سورہ نساء پ ۱ رکوع ۱۱ آیت ۱۲

ترجمہ:- اور ان بیویوں کو جو تھائی ملے گا اس ترکہ کا جس کو تم چھوڑ کر جاؤ اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں حصہ ملے گا وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔

### کلامہ کا حکم

۱۲۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً فَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عَنِ مِّضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ۔

سورہ النساء پ ۱ رکوع ۱۲

ترجمہ:- اور اگر کوئی میت کلامہ ہو جس کی میراث دوسروں کو ملے گی خواہ

وہ میت مزد ہو یا عورت (کلام وہ ہے) کہ جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں  
اور اس کے ایک بھائی بہن ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا  
حصہ ملے گا اور اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی میں شریک  
ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد کہ جس کی وصیت کر دی جائے یا قرضہ  
ادا کرنے کے بعد بشرطیکہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔

۱۳۔ یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ -

سورۃ بقرہ پ ۳ رکوع ۱۱ آیت ۲۷۶

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔

۱۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا -

پ ۳ سورۃ بقرہ رکوع ۱۱ آیت ۲۷۸

ترجمہ:- اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بتایا ہے۔ اس کو  
چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔

## قرض کے لین دین کے سلسلہ میں ضروری تاکید

۱۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ -

پ ۳ سورۃ بقرہ رکوع ۱۱ آیت ۲۸۲

ترجمہ:- اے ایمان والو! جب معاملہ کرنے لگو اُدھار کا ایک میعاد مقررہ  
تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔

۱۶۔ وَآخِذْهُمْ بِالرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ -

سورۃ النساء پ ۳ رکوع ۱۱ آیت ۱۶۱

ترجمہ:- اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جب کہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا۔



## خرید و فروخت کے احکام

۱۔ وَاحِلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ سورہ بقرہ پ ۲، رکوع ۵، آیت ۲۷۵

ترجمہ:- اور خداوند قدوس نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا أَمْوَالُهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ۔ (پ ۳ سورہ النساء) رکوع ۱، آیت ۲۹

ترجمہ:-

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ سورہ الجمعة پ ۱، آیت ۹

ترجمہ:- اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے

کے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نماز و خطبہ) کی طرف فوراً چل پڑا کرو اور خرید و

فروخت (اور اسی طرح دوسرے مشاغل) چھوڑ دیا کرو،

۴۔ وَأَخْرُوجُنَّ يُصْرِكُنَّ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

سورہ مزمل پ ۲، رکوع ۱۳، آیت ۲

ترجمہ:- اور بعض لوگ تماش روزگار کے لیے ملک میں سفر کریں گے۔

### سود!

۵۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ۔ پ ۳ سورہ بقرہ رکوع ۵، آیت ۲۷۵

ترجمہ:- اور جو لوگ سود کھاتے ہیں، نہیں کھڑے ہوں گے (قیامت میں قبروں

سے) مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان غیبی بنا دے

لیٹ کر۔ (یعنی حیران و مدہوش)۔

## انسان کی نفسیات

### انسانی حقوق سے متعلق قرآن پیغام

۱۔ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا۔

ترجمہ: اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

### انسان کی نامعاقبت اندیشی

۲۔ وَیَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

سورہ بنی اسرائیل پ ۱۵

ترجمہ:- اور بعض آدمی برائی یعنی عذاب کی ایسی درخواست کرتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست، اور انسان کچھ طبعاً ہی جلد باز ہوتا ہے۔

### انسان کی کم ہمتی

۳۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل پ ۱۵ رکوع آیت ۱۵

ترجمہ:- اور آدمی ہے بڑا تنگ دل۔

### انسانوں کے لیے راہ اعتدال کا حکم

۴۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ

الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔

ترجمہ:- اور اپنا ہاتھ نہ تو گردن سے ہی باندھ لینا چاہیے اور نہ بالکل

کھول دینا چاہیے، ورنہ الزام خوردہ تہی دست ہو کر پیٹھے رہیں گے۔

## اُترا کر چلنے کی ممانعت مذمت

۵۔ رَاہَ تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْرًا۔

ترجمہ: اور زمین پر اترنا ہواست چل کیوں کہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ گردن تان کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔

۶۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ ضِرْدَ بَعَانَا تُبِّئْ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ..... سورۃ زمر پ ۲۲ آیت ۴۹

ترجمہ:۔ پھر جس وقت اُس مشرک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو میری تدبیر سے ملی ہے

## انسان کی زندگی کے تین دور

۷۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَلَّكُمُ الْوَدَّاعُ

ترجمہ:۔ وہ ہی ہے کہ جس نے (تمہارے باپ کو) مٹی سے پیدا کیا پھر ان کو نسل کو نطفہ سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر تم کو بچہ کر کے ران کے پیٹ سے نکالتا ہے (پھر تم کو زندہ رکھتا ہے) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو پھر تم کو اور زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔

۸۔ إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ مَّبِينٌ..... (رکوع ۷ پ ۲ سورۃ زخرف)

ترجمہ:۔ بے شک انسان کھلا ہوا ناشکر ہے۔



۹۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَيْدِ۔ (پ ۱۵ سورۃ ق رکوع ۱۵)

ترجمہ: اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں۔ ہم انکو جانتے ہیں اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اسکی رگ گردن سے بھی زیادہ۔

## خوبصورت سانچے میں ڈھالا گیا انسان

۱۰۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ....

رپ سورۃ والتین آیت ۴ رکوع ۲۷

ترجمہ:- اور ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔

۱۱۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَصَوَّرَ كَمًا حَسَنَ صَوْرِكُمْ۔

ر سورۃ تغابن پ ۲۹

ترجمہ:- اسی نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طریقہ سے پیدا کیا اور تمہارا نقشہ

بنایا سو عمدہ نقشہ بنایا۔

## قرآن میں زانی کی سزا

۱۔ الذَّانِبَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

سورۃ نور پ ۱۸

ترجمہ:- زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان میں ہر ایک کے  
توڑے مارو۔

## زنا کرنے والی عورت کیلئے حکم

۲۔ وَاللَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ  
الْمَوْتَ۔ پ سورۃ المائدہ

ترجمہ:- اور تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تو ان  
دونوں کو اذیت پہنچاؤ پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں تو ان دونوں  
سے کوئی تعرض نہ کرو،

## لواطت کرنے اور کرانے والے کی سزا

۳۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا..... فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا  
فَاعْرِضْ عَنْهُمَا...۔ پ سورۃ نساء

ترجمہ:- اور تم دو شخصوں میں سے جو شخص بے حیائی کا کام کریں تو ان  
دونوں کو اذیت پہنچاؤ پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں تو ان دونوں سے  
کوئی تعرض نہ کرو۔

## انسان کا بدلتا ہوا مزاج

۱۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ مِّنْ عَارِبَةٍ مُّنبِئًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَرَ لَّهُ  
نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ.....

(سورۃ الزمر پ ۲۳ رکوع ۱۴)

ترجمہ :- اور جب انسان کو سختی پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو رجوع  
ہو کر پکارتا ہے پھر جب اس کو نعمت بخش دی جاتی ہے تو بھول جاتا ہے  
اس کو جس کے لیے پکارتا تھا.....

## مصیبت کے وقت انسان کی کیفیت

۲۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا  
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي۔

(سورۃ الزمر پ ۲۳ رکوع ۱۴ آیت ۲)

ترجمہ :- جب آدمی کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتے لگتا ہے پھر  
جب اس کو نعمتیں بخش دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو ملی میرے علم  
کی بدولت۔

## تمام انسانوں کی پیدائش ایک ہی نفس سے

۳۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا..... (پ ۱ سورۃ الاعراف رکوع ۱۳)

ترجمہ :- اور اللہ ایسا قادر ہے کہ جس نے تم کو ایک نن سے پیدا کیا اور



اس سے اس کا جوڑ (رحمۃ) کو بنایا تاکہ وہ اس سے اپنے جوڑے سے  
انسیب حاصل کرے۔

## رحمت اور کرم کی انتہا

۲۔ وَلَوْ لَوَّاهُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ  
وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى.....

پ ۱۲ سورۃ خجدر کو ۹۴

ترجمہ:- اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کے سبب دار و گیر فرماتے  
تو زمین کی سطح پر کوئی حرکت کرنے والا نہ چھوڑتے لیکن ایک مبعاد معین  
تک ہلت دے رہے ہیں۔

## رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت

۵۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ۔

ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں سے بعض کو ایک دوسرے پر  
فضیلت دی ہے۔

## تمام مخلوق پر انسان کی فضیلت

۴۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ  
رَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا

تفضیلہ۔ پ سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۱۷، آیت ۷۰

ترجمہ:- اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور

دریا میں سوار کیا اور نفیس نفیس چیزیں ان کو عطا کیں اور ہم نے ان کو  
اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔

## قرآن اور انسانی فطرت

۷۔ وَإِذْ أَلْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَاضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذْ أَمْسَاهُ  
الشَّرَّكَانَ يَوْمَ سَا۔ رکوع ۷۔ (سورہ بنی اسرائیل ۱۸۳ آیت ۸۳)  
ترجمہ :- اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے  
اور کروٹ پھیر لیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو  
جاتا ہے۔

## جھکے ہیں سب سے آگے

۸۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدًّا۔  
رکوع ۱۷۔ سورہ کہف پ ۱۵ آیت ۸۴  
ترجمہ :- منکر آدمی جھکے ہیں سب سے بڑھ کر ہے  
۹۔ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ۔ سورہ الدہر پ رکوع ۱۵ آیت ۳۴  
ترجمہ :- انسان جلدی کے خمیر کا بنایا ہوا ہے۔  
۱۰۔ لَا يَسْمُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ يَوسُسْ  
قَسُوط۔ ....

ترجمہ :- انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اس کو برائی پہنچ جائے  
تو نا امید ہو کر امید چھوڑ بیٹھتا ہے۔

۱۱۔ أَمْ يَلِدُ الْإِنْسَانُ مَا تَمْتِي فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى۔

ترجمہ: کیا انسان کو ہر ایک تمنا مل جاتی ہے سو خدا ہی کے اختیار میں ہے  
آخرت اور دنیا بھی۔

۱۲۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
أَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ (پ ۲ سورہ روم)  
ترجمہ:۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا  
پھر تھوڑے ہی دن کے بعد تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہو اور اس  
کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی  
بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم شوہر و بیوی میں محبت  
اور مہر و دی پیدا کی۔

### انسانوں کی پیدائش اور قبیلے

۱۳۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔  
پ ۲ سورہ الحجرات آیت ۳

ترجمہ:۔ اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے  
اور تم کو مختلف قومیں بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو بیشک  
اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو کہ سب سے زیادہ  
پرہیزگار ہو۔



## انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید

۱۴۔ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔

آیت ۱۵ پ ۲۶ سورہ احقاف رکوع ۱۱

ترجمہ:- اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔

## کم ہمت انسان

۱۵۔ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ سورہ معارج پ ۲۹ رکوع ۶ آیت ۲۱

ترجمہ:- انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے یعنی جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو (حداباحت سے زیادہ) جزع فرع کرنے لگتا ہے اور جب اس کو فارغ ابالی ہوتی ہے تو حقوق ضرور پر سے بخل کرنے لگتا ہے۔

## زمین ایک گہورا اور پہاڑ، زمین کی میخ ہیں

۱۶۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا أَوَّلَ الْجِبَالِ أَوْتَادًا خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا قَوْمَكُمُ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ سورہ نساء آیت ۱۱

ترجمہ:- کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو زمیں کی میخیں نہیں بنایا اور اس کے علاوہ اور بھی قدرت ظاہر فرمائی چنانچہ ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا (یعنی مرد و عورت) بنایا اور ہم نے ہی تمہارے سونے کو راحت

کی چیز بنایا اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔

## انسان سے ایک سوال

۱۷۔ یٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ  
فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ۔

(سورۃ الانفطار پ ۳۷)

ترجمہ :- اے انسان، تجھ کو کس چیز نے تیرے رب کریم کے ساتھ بھول  
میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو انسان بنایا پھر تیرے اعضاء کو درست  
کیا پھر تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا اور جس صورت میں چاہا ترکیب دے دیا۔

## بادشاہوں کی نفسیات

۱۸۔ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا مَنَّ كُؤَا قَرِيَةً اَنْفُسُوْهَا وَجَعَلُوْا  
اَعْدَاَ اَسْلٰهَآ اِذْلَةً۔ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ۔

سورۃ النمل پ ۱۴ رکوع ۱۷ آیت ۳۴

## انسان کی پیدائش کا مادہ

۲۰۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خَلَقَ۔

ترجمہ: انسان کو قیامت کی فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔

## رنج و غم میں مبتلا انسان

۲۱۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ۔ پٹ سورہ بلد

ترجمہ: اور ہم نے انسان کو بڑی کاوشوں میں پیدا کیا ہے۔

۲۲۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔

ترجمہ: ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے پھر اُن میں جو بوجھ ہوتا ہے ہم اس کو بستی کی حالت والوں میں سے بھی پست کر دیتے ہیں۔

## قلمِ تعلیم کا اولین ذریعہ

۲۳۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ،

پٹ سورہ علق آیت ۵ رکوع ۲

ترجمہ: جس نے لکھے پڑھے لوگوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسان کو دوسرے ذرائع سے اُن چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔



## گمراہ انسان اور اس کی بے پرواہی

۳۲۔ کَذَّبَتْ الْاِنْسَانُ لِيَطْغَىٰ اَنْ رَّآهُ اسْتَغْنٰی۔

(سورہعلق آیت ۴۲ تا ۴۳)

ترجمہ: بے شک کافر آدمی، آدمیت سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے.....

## ناشکر انسان

۲۵۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ۔

(پاٹ سورہ عادیات آیت ۴)

ترجمہ: بے شک کافر آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے اور اس کو خود بھی اس کی خبر ہے۔

## خسارہ میں رہنے والا انسان

۲۶۔ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ (پاٹ سورہ والعصر)

ترجمہ: قسم ہے زمانہ کی جس میں نفع نقصان واقع ہوتا ہے کہ انسان بوجہ عمر ضائع ہونے کے بڑے خسارہ میں ہے۔

انسانوں کو اولاد کو قتل نہ کرنے (یعنی ضبط ولادت) کی ممانعت

۲۷۔ وَلَا تَقْتُلُواْ اَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِیَّاهُمْ۔

(سورہ بنی اسرائیل پ ۱۵)

ترجمہ :- اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ مار ڈالو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔

## انسانوں کی ایک دوسرے پر فضیلت

۲۸۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ فِي مَا آتَاكُمْ۔ سورۃ الاعراف پ ۹  
ترجمہ :- اور اس نے تم کو نائب بنایا ہے زمین میں اور تم میں سے ایک کے دوسرے پر درجے بلند کر دیئے ہیں۔

## دیگر مذاہب و شخصیات کو برا کہنے کی ممانعت

۲۹۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورۃ الاحزاب پ ۷)

ترجمہ :- اور برا مت کہو ان کو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں پھر وہ راہ جہل میں حد سے گذر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔

## بغیر تحقیق کے یقین کرنے کی سخت ممانعت

۳۰۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ۔ پ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل

ترجمہ :- اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل در آمد نہ کر، کیوں کہ کان، آنکھ اور دل کے بارے ہر ایک شخص سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔

۳۱۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ۔

ترجمہ :- اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور تمہارے لیے اُس میں روزیاں مقرر کر دیں۔

## انسان کی کوشش کا نتیجہ

۳۲۔ وَأَنْ كَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا وَمَا سَعَى۔

ترجمہ :- اور یہ کہ انسان کو ایمان کے بارے میں صرف اس کی اپنی ہی کمائی ملے گی،

۳۳۔ قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا اكْفَاهُ، مِنْ آيٍ شَيْءٍ خَلَقَهُ۔

(پ ۳ سورہ عبس)

ترجمہ :- انسان پر خدا کی مار کہ وہ کیسا ناشکر ہے کہ وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا۔

۳۴۔ يَوْمَ يَنْذَكُرُ الْإِنْسَانُ مَا فِي لَهُ الذِّكْرَى۔

(پ ۳ سورہ والفجر رکوع ۳ آیت ۳۴)

ترجمہ :- اور اُس روز انسان کو سمجھ آئے گی اور اب سمجھ آنے کا موقعہ کہاں رہا؟

۳۵۔ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔

پ ۳ سورہ الانشراح رکوع ۱

ترجمہ :- اے آدمی! تجھ کو اپنے رب تک پہنچنے میں تکلیف اٹھانا ہے سبہ سبہ کر پھر اس سے ملنا ہے۔



## والدین کیلئے حسن سلوک کی تاکید

۳۸۔ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ  
وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔

سورہ لقمان پ ۱۱ آیت ۱۲ رکوع ۱۱

ترجمہ :- اور ہم نے انسان کو تاکید کر دی اس کے والدین کے واسطے،  
اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا تھک، تھک کر اور اس کا دودھ  
چھڑانا ہے دو سال میں کہ میرا حق مان اور اپنے ماں، باپ کا یعنی میرا اور  
والدین کا شکر ادا کر۔  
راستہ میں چلنے کے آداب

۳۹۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ  
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔۔۔۔۔ سورہ لقمان پ ۱۲ رکوع ۱۱ آیت ۱۹

ترجمہ :- اور درمیانہ چال چلو، اور اپنی آواز نیچی کرو، بے شک بری سے  
بری آواز گدھے کی آواز ہے۔

## الغابات باری اور قرآن

۴۰۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظُلُمًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ  
كُنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ  
بِأْسَكُمْ۔ سورہ نحل رکوع ۱۱ پ ۱۱ آیت ۸

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے  
بنائے ہیں۔ اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کی جگہیں بنائیں اور

ایسی نئے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں۔ جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو ٹھنڈی کے وقت کام آئیں وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔

۴۱۔ اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ

مبین۔ آیت ۲۱ سورہ یسین پ ۲۳

ترجمہ: کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا سو وہ ہم پر اعتراض کرنے لگا۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ  
الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ لَا مِنْ  
اَصْوَابِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اِنَّا تَوَّابًا وَمَتَاعًا اِلَىٰ حِينٍ وَاللّٰهُ  
جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ  
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَارِدَ كَذٰلِكَ  
يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلٰىكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

ترجمہ: اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیئے ہیں جن کو تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی اور ان کی روں اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامانِ وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیز بنا دی،

۴۲۔ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْبًا مَّذْكُورًا  
اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ

سورہ دھر رکوع ۱ آیت ۱

ترجمہ :- بے شک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا، ہم نے اس کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں۔  
۴۳۔ ان الانسان لظالم کفار۔

سورۃ ابراہیم پ ۳۱ رکوع ۱۱ آیت ۴۳

ترجمہ :- بے شک آدمی بڑا بے انصاف ہے ناشکرا،

## انسانوں کے عرف کی رعایت

۴۴۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔

سورۃ ابراہیم پ ۳۱ رکوع ۱۱ آیت ۴۴

ترجمہ :- اور ہم نے تمام پہلے پیغمبروں کو بھی ان ہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ اُن سے احکام الہیہ کو بیان کریں۔  
۴۵۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔

(پ ۳ سورۃ عبس)

ترجمہ :- اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو ہم نے اوپر سے پانی ڈالا کرتا ہوا۔  
۴۶۔ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ دُغْنٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ دُغْنٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ قُرَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُرَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔

سورۃ الدوم پ ۲۱ رکوع ۱۱ آیت ۴۶

ترجمہ :- اللہ ہی ہے کہ جس نے تم کو کمزوری سے بنایا پھر تم کو کمزوری کے بعد طاقت بخشی، پھر طاقت کے بعد کمزوری دے گا، اور سفید بال وہ جو کچھ چاہے بناتا ہے۔



## قرآن اور نظام کائنات

۱۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔  
ترجمہ:- آپ فرما دیجئے تم لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھو، کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا ربر (بر) انجام ہوا۔

چاند، سورج کی پیدائش اور رات دن کے بنانے کا مقصد

۲۔ قَالِقُ الْأُصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا  
(سورۃ الانعام پ ۷)

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے۔

## رات اور دن کی زندگی

۳۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ سُوْرَةَ الْاِنْعَامِ

ترجمہ:- اور وہ اللہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گونہ قبض کر لیتا ہے۔ اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے پھر تم کو دن میں جگا اٹھاتا ہے اٹھتا ہے تاکہ ميعاد میں تمام کر دی جائے۔

## ستاروں کا مقصد

۴۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ ۱۲۱ سورۃ نحل رکوع ۷ آیت ۱۶

ترجمہ:- اور ستاروں سے بھی لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔

۵۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ  
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ سورۃ الانعام پ ۱۷ رکوع ۱۷ آیت ۹۸

ترجمہ:- اور وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں  
کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعہ سے اندھیروں میں خشکی میں بھی اور دریا میں  
بھی راستے معلوم کر سکو۔

اللہ تعالیٰ کے دیگر انعامات اور کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتیں

۶۔ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔

ترجمہ:- اور وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا  
پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قسم کی نباتات زمین سے پیدا ہونے  
والی چیزوں کو نکالا،

## کائنات کا حقیقی مالک

۱۔ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ

(پ ۱ سورۃ الاعراف رکوع ۱ آیت ۱)

ترجمہ:- بے شک زمین اللہ کی ہے وہ اُس کو جس کو دل چاہے وارث بناویں۔

## کائنات کی پیدائش میں ترتیب

۲۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ سُوْرۃ یونس پ ۱ رکوع ۵ آیت ۵

ترجمہ:- بلاشبہ تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین

کو کچھ روز کی مقدار میں پیدا کر دیا، پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا۔

۳۔ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِیَآءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا

عَدَدَ السِّنِّیْنَ وَالْحِسَابَ پ ۱ رکوع ۵ آیت ۵ سورۃ یونس

ترجمہ:- وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی

نورانی بنایا اور اس چال کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم رسول کی گفتی اور

حساب معلوم کر لیا کرو۔

## آسمان میں گنبد

۴۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّمٰوٰی بُرُوجًا وَزَیْنًا لِلنَّظْرِیْنَ

ترجمہ:- اور بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کئے۔

اور دیکھنے والوں کیلئے اس کو آراستہ کیا۔



## رات اور دن اور چاند سورج کی تسخیر

۵۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ۔

ترجمہ: اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو اپنا مستخر بنایا اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔

## سمندر سے حاصل ہونے والے بیشمار فائدے

۶۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُومٍ لَّحْمٌ طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَبَنَتَعُوْا مِنْ فَضْلِهِ ..... (سورۃ فاطر ۲۲ رکوع ۳ آیت ۱۲)

ترجمہ:- اور وہ دونوں دریا برابر نہیں ہیں، ایک تو شیریں پیاس بھانے والا ہے جس کا پینا بھی آسان ہے ایک شورہ تلخ ہے اور تم ہر ایک دریا سے مچھلیاں نکال کر ان کا تازہ گوشت کھاتے ہو نیز زبور یعنی موتی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو اور تم کشتیوں کو اس میں دیکھتے ہو پانی کو بھاڑتی ہوئی، چلتی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعہ سے اس کی روزی تلاش کر سکو۔

## رات اور دن اللہ کی نشانیاں

۷۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحْوُودَاتٍ آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا

آيَةُ النَّهَارِ مُبْصِرَةٌ لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا  
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔

ترجمہ: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، نورات کی نشانی کو  
ہم نے دھند بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا تاکہ دن میں  
اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔  
۸۔ وَمِن آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔

ترجمہ: اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے  
جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے اور وہی آسمان سے پانی  
برساتا ہے پھر اسی سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ  
کر دیتا ہے۔

۹۔ وَمِن آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ  
دَعْوَةَ مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔

ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے  
حکم سے قائم ہے پھر جب تم کو پکار کر زمین میں سے بلائے گا تو تم ایک  
بارگی نکل پڑو گے۔

اگر دنیا کے تمام درخت قلم اور سمندر روشنائی ہوں

۱۰۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُهِ مِن  
بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ۔ پ ۲۱ سورۃ لقمان آیت ۲۱

ترجمہ:- اور اگر جس قدر زمین میں درخت ہیں قلم ہوں اور اس کی روشنائی سمندر ہو اور اس کے پیچھے سات سمندر ہوں تو نہ تمام ہوں اللہ کی باتیں بے شک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا۔

۱۱۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔

پ ۲۱ سورۃ الروم رکوع ۵ آیت ۲۱

ترجمہ:- اور اسی کی نشانیوں میں ہے کہ اُس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ فکر سے کام لیتے ہیں۔

۱۲۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلْقَ الْبَشَرِ وَالْأَنْعَامِ۔

ترجمہ:- اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا بنانا، اور تمہارے لب و لہجہ اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

## رات اور دن کی نیند

۱۳۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاكُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ (سورۃ دوم)

ترجمہ:- اور اسی کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات میں اور دن میں اور اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے اس میں اُن لوگوں کے لیے نشانیاں



ہیں جو سنتے ہیں۔

اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے والی جاندار اور غیر جاندار اشیاء

۱۴۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْضُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ۔

ترجمہ :- تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جس نے ان میں ہیں اُس کی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو لیکن تم لوگ اُس کی پاکی کو نہیں سمجھتے۔

۱۵۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا۔ سورہ زمر رکوع ۱۶ آیت ۲۱۔

ترجمہ :- اے مخاطب! کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برساتا پھر اس کو زمین کے سوتوں میں داخل کر دیتا ہے جب وہ اُبلتا ہے تو اس کے ذریعہ کھیتیاں پیدا کرتا ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اُس کو تو زرد دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کھیتی کو چوڑا چور کر دیتا ہے۔

## کاٹنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں

۱۶۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَوَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ تَبَيَّنَ لَهُمْ آيَاتُهُ الْحَقِّ۔۔۔۔۔ (آیت ۵۳ پ ۲۵ سورہ شوریٰ)

ترجمہ :- ہم عنقریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں اُن کے گرد و نواح میں

بھی دکھلا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی۔ اور یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔

۱۶۔ اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا.....

(سورۃ ق پک آیت ۱۶)

ترجمہ:- کیا وہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اس کو بنایا....

## قرآن اور قدرت کے عجائبات

۱۷۔ اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْاُصْبَالِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَرَأَى السَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ وَرَأَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَرَأَى الْاَرْضَ كَيْفَ سُطِحَتْ

ترجمہ:- کیا وہ لوگ اُونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طور سے پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کئے گئے ہیں۔ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچائی گئی ہے۔

۱۸۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ۔

(پ ۱۱ سورۃ یونس رکوع ۵ آیت ۵)

ترجمہ:- وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس چال کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔

۱۹۔ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا۔

پ ۱۳ رکوع ۱۶ آیت ۲۲ سورۃ ابراہیم

ترجمہ :- اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرتے لگو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔

## ”پانی“ ہر ایک مشینری کی جان

۲۱۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ إِنَّ سُوْرَةَ الْاَنْبِيَاءِ رُكُوْعٌ ۙ اٰیٰتٌ ۙ

ترجمہ :- اور ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو زندگی بخشی ہے۔

۲۲۔ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُہُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۚ

ترجمہ :- اور ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب کے خزانے بھرے کے

بھرے پڑے ہیں اور ہم اس چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے

ہیں۔ (سورۃ الحج ۲۲ رکوع ۱۷)

## زمین میں رزق و روزگار

۲۳۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْہَا مَعَاشٍ ۚ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَہٗ بِرَازِقِیْنَ ۚ

(سورۃ حجر ۲۳ رکوع ۱۷ آیت ۲۰)

ترجمہ :- اور ہم نے تمہارے واسطے اُس میں زمین میں (معاشرے کے سامان

بنائے اور ان کو بھی معاش دی کہ جن کو تم روزی نہیں دیتے۔

## آسمان مرکز زمین

۲۴۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّمٰوٰتِ بُرُوْجًا ۚ وَزَيَّنَّاہَا لِلنَّظْرِیْنَ ۚ

پ ۱۷ سورۃ حجر رکوع ۱۷ آیت ۱۷

ترجمہ :- اور بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کئے

اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کیا۔



اور وہ تمہارے بوجہ لاد کر ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر  
جان کو محنت میں ڈالے ہوئے خود ہی نہیں پہنچ سکتے تھے۔

### سمندر سے حاصل ہونے والے فائدے

۲۵۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا  
مِنْهُ حُلِيَّةً تَكْسُوْنَهَا۔ وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاحِرًا فِيهِ وَ  
لَتَبْتَخِرُوا مِنْهُ فِضْلِهِ۔ پ ۳۱ سورۃ رُكُوع ۸۱ الخ

ترجمہ:- اور وہ ایسا ہے کہ اس نے دریا کو بھی مسخر بنایا کہ اس میں سے  
تازہ تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے (موشیوں) کا گھنا نکالو۔ جس کو  
تم پہنتے ہو اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس (دریا) میں اس کا پانی چیرتی  
ہوئی چلی جا رہی ہیں اور تاکہ تم خدا کی روزی تلاش کرو۔

### پہاڑوں اور دریا جیسی نعمتیں

۲۶۔ وَالْقُلُوبُ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تُمِيدَ بِهِمْ وَالتَّهَارُ أَوْ سُبُلًا  
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ طُرُقًا لِّتَهْتَدُوا۔

ترجمہ:- اور اسی نے زمین میں پہاڑ رکھ دیئے تاکہ وہ زمین تم کو لے کر  
ڈگمگانے اور ہلنے نہ لگے اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم  
منزل مقصود تک پہنچ سکو اور بہت سی نشانیاں بنائیں اور ستاروں سے  
بھی لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔

## سواری کے جانور اور سائنس جدید و قدیم

۲۷۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ النحل پ ۷۱ رکوع ۷۱

ترجمہ :- اور گھوڑے اور خچر بھی پیدا کیئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور نیز زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے جس کی تم کو خبر بھی نہیں۔

## جانوروں سے حاصل ہونے والے فائدے

۲۸۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ۔

ترجمہ :- اور اس نے چوپایوں کو بنایا، ان میں تمہارے بھارے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو اور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے جب کہ ان کو شام کے وقت لاتے ہو اور جب کہ ان کو صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو۔

## قرآن اور جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد

۲۹۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ.....

پ ۷۱ سورۃ الانعام رکوع ۳۱ آیت ۲۹

ترجمہ :- اور خدا تعالیٰ نے مویشیوں میں (بہر طرح کے جانور) بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے جانور پیدا کئے۔

## جانوروں کی زندگی قرآن کی نظر میں

۳۰۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّقِيتُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَرَدْمٍ لَبْنَاخًا لِصَاسًا يَغَّاثًا لِيُشَارِبِينَ.....

(پ ۱۲ سورۃ النحل)

ترجمہ: نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور درکار ہے دیکھوان کے پیٹ میں جو، گوبر اور خون کا مادہ ہے اُس کے درمیان صاف اور میں آسانی سے اُترنے والا دودھ رہتا کہراہم تم کو پینے کے لیے دیتے ہیں۔

## جانوروں سے حاصل ہونے والی نعمتیں

۳۱۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا أَثَارٌ وَمَتَاعًا

الحی حین... سورۃ النحل پ ۱۲ رکوع ۵۱

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اُس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیئے ہیں جن کو تم ہلکا، چھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی اور اُن کی اُون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیز بنادیں۔



## سواری کے جانور اور سائنس جدید و قدیم

۳۳۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيُخْلِقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔

ترجمہ:- کھوڑے اور خچر بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور نیز زینت کے لیے بھی اور وہ ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے جس کی تم کو خبر بھی نہیں۔  
۳۴۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ۔

ترجمہ:- اور اُسی نے چوپایوں کو بنایا۔ ان میں تمہارے لیے جاڑوں کا سامان بھی ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو اور انکی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے جبکہ شام کے وقت (جنگل سے) گھبراتے ہو اور جبکہ صبح کے وقت انکو چھوڑ دیتے ہو اور وہ جانور تمہارے بوجھ بھی لا کر ایسے شہر کو جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔  
۳۵۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا (پ سورہ بقرہ آیت ۲۱)  
ترجمہ:- بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال پھر کی یا اس چیز کی جو کہ اس سے بڑھ کر ہے۔

۳۶۔ وَأَشْرِكُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ۔ سورہ بقرہ پارہ ۱ آیت ۹۳ رکوع ۱  
ترجمہ:- اور پائی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت۔

۱۔ آیت کریمہ تمام سائنسی ایجادات کی قرآن دہیل پر حاوی ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جامع طرز پر تمام آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کو بیان فرمادیا۔

۳۷۔ وَبَثَّ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ رِسْرَةٌ بَقَرَةٌ لَكُمْ آيَةٌ ۱۶۴

ترجمہ :- اور اس میں تمام قسم کے جانور پھیل گئے۔

۳۸۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

أَمْثَلَكُمْ مَا خَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۱۶۵

پ ۱ سورۃ الانعام رکوع ۱

ترجمہ :- اور زمین میں کوئی چلنے والا نہیں اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے دو اپنے بازوؤں سے مگر سر ایک امت تمہاری طرح۔

۳۹۔ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ

لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بَأْمُرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْإِنِّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۱۶۶

پ ۱۳ سورۃ ابراہیم رکوع ۱ آیت ۳۳

ترجمہ :- اللہ ایسا ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان

سے پانی برسیا پھر اس پانی سے پھلوں کی قسم سے تمہارے لیے رزق پیدا

کیا اور تمہارے نفع کے واسطے کشتی اور جہاز کو مسخر بنایا کہ وہ خدا کے

حکم سے (و قدرت سے) دریا میں چلے اور تمہارے نفع کے واسطے

نہروں کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا اور اس سے نفع کے لیے موج اور چاند کو اپنی

قدرت کا مسخر بنایا جو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں اور تمہارے نفع کے

واسطے رات اور دن کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا۔

۴۰۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا  
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔  
ترجمہ :- اور تمہارے پروردگار نے مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں گھر  
بنائے اور درختوں میں اور جہاں جہاں ٹھیاں باندھتے ہیں پھر ہر قسم کے  
پھلوں میں سے کھا۔

۴۱۔ الْمِيدُو إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، مَا يُمْسِكُهُنَّ  
إِلَّا اللَّهُ۔ پ ۱۲ سورہ نحل رکوع ۱۶۔ آیت ۷۹  
ترجمہ :- کیا تم نے اڑتے ہوئے جانور نہیں دیکھے حکم کے باندھے  
ہوئے آسمان کی ہوا میں ان کو سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں  
تھام رہا۔

۴۲۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔  
آیت ۷۹۔ سورہ کہف پ ۱۵ رکوع ۷۹  
ترجمہ :- پھر اس نے اپنا راستہ لیا، دریا میں سُرنگ بنا کر۔  
۴۳۔ فَاخْرَجَ لَهُمُ عَجَلًا جِوَاءَ لَهُ خَوَار۔

ترجمہ :- پھر ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا۔  
۴۴۔ لَنُيَنَّاكَ اللَّهُ لَحْمًا مِّمَّا وَكَلَدِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَّاكَ  
التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ پ ۱۷ سورہ حج۔

ترجمہ :- اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن  
اس کے پاس ان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔



## ہر ایک کو روزی دینے والی ذات

۴۵۔ وَكَانَ مِنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا إِيَّاكُمْ  
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

پ ۳۱ سورۃ العنکبوت رکوع ۱ آیت ۲۰  
ترجمہ:- اور کتنے جانور ہیں جو کہ اپنا رزق اٹھا نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ  
ان کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں اور تم کو بھی اور وہ ہی ہے سُننے والا  
اور جاننے والا۔

تمت  
مرتب

خورشید حسن قاسمی

رفیق و ارفقاء دارالعلوم دیوبند

یوپی انڈیا



قرآنِ کریم کے

فقہی و سائنسی مضامین

حور شیاد حسن قاسمی